

ایم اے علوم اسلامیہ (سال اول کے مضامین)

- ۱۔ پہلا پرچہ : القرآن و علوم القرآن۔ (اصول تفسیر۔ تاریخ تفسیر۔ متن تفسیر)
- ۲۔ دوسرا پرچہ : حدیث و علوم الحدیث۔ (اصول حدیث۔ تاریخ حدیث۔ متن حدیث)
- ۳۔ تیسرا پرچہ : مطالعہ مذاہب عالم
- ۴۔ چوتھا پرچہ : تاریخ اسلام
- ۵۔ پانچواں پرچہ : عربی زبان و ادب

ایم اے علوم اسلامیہ (سال دوم)

- ۱۔ پہلا پرچہ : فقہ و علوم الفقہ (اصول فقہ۔ تاریخ فقہ۔ متن فقہ)
- ۲۔ دوسرا پرچہ : اسلام اور جدید معاشی افکار
- ۳۔ تیسرا پرچہ : اسلام اور سائنس/اسلام اور فلسفہ/عالم اسلام کے وسائل اور مسائل
- ۴۔ چوتھا پرچہ : اسلام اور جدید فکر مغرب/اسلامی اخلاق و تصوف
- ۵۔ پانچواں پرچہ : مقالہ/دعوت و ارشاد

ایم اے علوم اسلامیہ

(سال اول)

القرآن و علوم القرآن

پہلا پرچہ

20 نمبر	الف۔ اصول تفسیر
20 نمبر	ب۔ تاریخ تفسیر
40 نمبر	ج۔ متن قرآن
20 نمبر	د۔ معروضی سوالات (مذکورہ تینوں حصوں سے پوچھے جائیں گے)

تفصیلات؛

اصول تفسیر

رسالہ فی اصول تفسیر (ابن تیمیہ) الفوز الکبیر (شاہ ولی اللہ) اور علوم القرآن (مولانا گوہر رحمان) کی روشنی میں مندرجہ ذیل عنوانات کا مطالعہ کیا جائے گا۔

قرآن کے علوم پنجگانہ (علم الاحکام، تذکیر بآلاء اللہ، علم المخاصمہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد الموت)۔ غریب القرآن ناسخ و منسوخ محکم و متشابہات۔ اسباب نزول۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان - (قرآن میں مضامین کا انتشار۔ تکرار مضامین۔ قرآن کی غنائیت۔ اعجاز القرآن) ترتیب قرآن

تاریخ تفسیر

جمع و تدوین قرآن مجید (عہد نبوی ﷺ - عہد صدیق اکبرؓ - عہد عثمان غنیؓ)

تفسیر اور تاویل کا فرق

تفسیر کی اقسام (تفسیر بالماثور، تفسیر بالرکے)

تفسیر کے مآخذ (قرآن مجید، حدیث رسول ﷺ، سنت رسول ﷺ، اقوال صحابہؓ، اقوال تابعینؓ)

تفسیری ادب کا ارتقاء (عہد نبوی ﷺ، عہد صحابہؓ، عہد تابعینؓ، اس کے بعد باقاعدہ تدوین تک معروف تفاسیر کی روشنی میں تاریخ تفسیر)

مندرجہ ذیل تفاسیر کے امتیازی خصائص اور مفسرین کا مختصر تعارف

تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیرؒ)، انوار التنزیل و اسرار التاویل (البیضاویؒ)، مفاتیح الغیب (امام رازیؒ)، احکام القرآن (ابوبکر جصاصؒ)، مجمع البیان (طبرسی)، روح المعانی (محمود آلوسی)، تفسیر مظہری (قاضی ثناء اللہ پانی پتی)، تفسیر ثنائی (مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ)، معارف القرآن (مفتی محمد شفیعؒ)، تدبر قرآن (مولانا امین احسن اصلاحیؒ)، فتح المنان فی تفسیر القرآن (مولانا عبدالحق حقانیؒ)، فی ظلال القرآن (سید قطبؒ)، تفہیم القرآن (سید ابو الاعلیٰ مودودی)، ضیاء القرآن (پیر محمد کرم شاہؒ)، تفسیر المنیر

متن قرآن مجید

اس حصہ کے لئے تفسیر ابن کثیرؒ، تفہیم القرآن، معارف القرآن، ضیاء القرآن، تیسیر القرآن لازمی تفسیریں ہوں گی۔ جو ان انہی سورتوں کی روشنی میں مطوب ہوگا۔

خصوصی نوٹ:

سورۃ المائدہ کے پہلے دو رکوعوں کے لئے وہیہ زحیلی کی التفسیر المنیر کا متن ترجمہ کے لئے دیا جائے گا اور طلبہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔

باقی سورت متعینہ پانچ تفاسیر کی روشنی میں تیار کی جائے گی۔

متن کے ہر سوال میں پانچ نمبر خط کشیدہ حصہ کی لغوی و نحوی ترکیب اور لفظی ترجمہ کے لئے مختص ہو گا۔

مندرجہ ذیل سورتوں کا مطالعہ کیا جائے گا اور سوال صرف آیت کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا اور تشریح مکمل قرآن مجید کی روشنی میں کرنا ہوگی۔

سورۃ المائدہ، سورۃ النحل، سورۃ الاحزاب، سورۃ الشوری

مجوزہ کتب:

ابن كثير، محمد بن	تفسير القرآن العظيم اسماعيل، حافظ
قرطبي، محمد بن احمد	الجامع الاحكام القرآن
حقاني، عبدالحق	تفسير فتح المنان (حقاني)
رشيد رضا، سيد	تفسير المنار
دريا آبادي، عبدالماجد	تفسير ماجدي
سيد قطب	في ظلال القرآن
مودودي، سيد ابو الاعلى	تفهيم القرآن
اصلاحي، امين احسن، مولانا	تدبر قرآن
سعدي، غلام رسول، مولانا	بنيان القرآن
كرم شاه، پير	ضياء القرآن
كيلاني، عبد الرحمن، مولانا	تيسير القرآن
محمد شفيق، مفتي	معارف القرآن
الزرقاني، عبد العظيم	مناهل العرفان في علوم القرآن
حقاني، عبد الحق	البيان في علوم القرآن
صبحي صالح، ڈاكٽر	مباحث في علوم القرآن
ذبي، محمد حسين	التفسير و المفسرون
مودودي، سيد ابو الاعلى	پردہ
مودودي، سيد ابو الاعلى	حقوق الزوجين
محمد سرور	اسلام اور تعداد از دواج
اصلاحي، محمد احسن، مولانا	حقيقت دين
حريري، غلام	تاريخ تفسير اور مفسرين
احمد، پروفيسر	احمد، پروفيسر
ارذو دائره معارف اسلامي (مقاله تفسير اور ديگر متعلقه مقالات، مقاله قرآن--)	
محمد مالک، مولانا	منازل العرفان

تفسیر، عہد بہ عہد محمد سعد صدیقی، ڈاکٹر
علوم القرآن تقی عثمانی، مفتی
محاضرات قرآن محمود احمد
غازی، ڈاکٹر

حدیث و علوم الحدیث

دوسرا پرچہ

- الف۔ اصول حدیث 20 نمبر
- ب۔ تاریخ حدیث 20 نمبر
- ج۔ متن حدیث 40 نمبر
- د۔ معروضی سوالات (مذکورہ تینوں حصوں سے پوچھے جائیں گے) 20 نمبر
- تفصیلات؛
- الف اصول حدیث

شرح نخبۃ الفکر۔ (حافظ ابن حجر عسقلانی)، تیسیر مصطلح الحدیث (دکتور محمود الطحان)

❖ چند اہم کتب اصول حدیث کا تعارف

شرح نخبة الفكر لابن حجر عسقلانی۔

مقدمہ ابن الصلاح

علوم الحدیث ڈاکٹر صبحی صالح

ان کتب کی روشنی میں علم اصول حدیث۔ علم اصول حدیث کی تاریخ اور ارتقاء کا جائزہ لیا جائے گا۔

ب۔ تاریخ حدیث

علم حدیث کی حجیت، اہمیت و ضرورت

علم حدیث کا نشوونما اور ارتقاء (عہد نبوی ﷺ، عہد صحابہؓ، عہد تابعینؓ)

عہد تدوین اور عہد انتخاب (اہم کتب حدیث اور صحاح ستہ کا تعارف)

۱۔ انکار حدیث۔ ایک تجزیہ

۲۔ مستشرقین اور حدیث

۳۔ برصغیر میں علم حدیث

ج۔ متن حدیث

اللؤلؤ والمرجان (فواد عبد الباقي)

کتاب الايمان ۲۰ ابواب پہلے دس ابواب فتح الملہم از مولانا شبیر احمد عثمانی کی روشنی میں تیار کرنے ہیں۔

کتاب الجہاد ۱۰ ابواب فتح الباری از علامہ ابن حجر عسقلانی کی روشنی میں تیار کرنے ہیں۔

کتاب الامارہ ۱۰ ابواب

کتاب البروالة ۱۰ ابواب

کتاب الذكر و الدعای ۱۰ ابواب

کتاب الزهد ۱۰ ابواب

مجوزہ کتب:

علوم الحديث

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث	جمال الدين القاسمی، محمد
تيسير مصطلح الحديث	محمود الطحان، ڈاکٹر
تاريخ و تدوين حديث	مناظر احسن گیلانی، مولانا
سنت کی آئینی حیثیت	مودودی، سید ابو الاعلیٰ
حفاظت حديث	خالد علوی، پروفیسر، ڈاکٹر
اصول حديث	خالد علوی، پروفیسر، ڈاکٹر
عظمت حديث	عبدالغفار حسن
السنه و مکاتھا فی التشريع الاسلامی	مصطفى السباعی، ڈاکٹر
السنه قبل التدوين	عجاج الخطيب
صاح سنه اور اس کے مؤلفین	محمد عبده، مولانا
سنت نبویہ ﷺ اور قرآن کریم	حبيب الله مختار، ڈاکٹر
علمحديث اور پاکستان میں اس کی خدمت	محمد سعد صدیقی، ڈاکٹر
اصول حديث	حميد الله عبد القادر، ڈاکٹر

متن حديث

فتح الباری شرح صحيح البخاری	ابن حجر عسقلانی
شرح صحيح مسلم	نووی يحيى بن شرف، امام
فتح الملهم	شبير احمد عثمانی، مولانا
اعلاء السنن	ظفر احمد عثمانی، مولانا
عمدة القاری	عینی، بدر الدين، محمود بن احمد
فيض الباری	انور شاه کشمیری، مولانا
تحفة الاحوذی	مبارک پوری، شیخ عبد الرحمن
تقرير ترمذی	تقی عثمانی، مفتی
تيسير المنام شرح عمدة الاحكام	عبدالله بن عبد الرحمن آل بسام

الصنعاني، محمد بن اسماعيل	سبل السلام شرح بلوغ المرام
بدر عالم ميرٹھی، مولانا	ترجمان السنۃ
بستوی، عبدالسلام	اسلامی خطبات
محمد منظور نعمانی	معارف الحدیث
کاندھلوی، مولانا محمد ادريس	حجیت حدیث
عبد الرؤف ظفر، ڈاکٹر	اصول حدیث
محمود احمد غازی، ڈاکٹر	محاضرات حدیث

Dr. India's contribution to the study of Hadith Literature
Muhammad Ishaq

مطالعہ مذاہب عالم

80 نمبر

20 نمبر

تیسرا پرچہ

الف۔ انشائیہ

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

۱۔ دین و مذہب

- i. مذہب کی ضرارت و اہمیت پر دلائل
 - ii. قرآن مجید۔ حدیث نبوی ﷺ۔ مسلم فلاسفہ و متکلمین اور دیگر علماء کے دلائل
 - iii. غیر مسلم مفکرین اور اثبات مذہب
 - iv. مذہب کی ضرورت پر سائنسدانوں کے دلائل۔ (مذہب اور سائنس)
- سیکولرازم۔ الحاد و دھرت

مسلم ماہرین مذاہب عالم کی فکر کا مطالعہ اور کتب کا تعارف

عبدالکریم شہرستانی۔ علامہ ابن حزم۔ امام ابن تیمیہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ ڈاکٹر احمد شلبی۔ قاضی سلیمان منصور پوری

۲۔ ہندومت

بت پرستی، ویدک ہندو دھرم، ذات پات کا نظام، برہمن، اپنشد، وید، فلسفہ یوگ، فلسفہ ویدانت، نجات کے طریقے، کرما مارگ، جنان مارگ، بھگتی مارگ، جدید ہندو دھرم، اسلامی دینی افکار کے ہندو دھرم پر اثرات، مجموعی ہندو انہ انداز فکر، طرز زندگی کا جائزہ

۳۔ بدھ مت

ہندو دھرم میں تحریک ہائے بدعت، جین مت اور بدھ مت، بدھ کے زمانہ کے مخصوص حالات زندگی، نروان، بدھ کی تعلیمات، بدھ مت کا فروغ اور اشاعت، دو مشہور فرقے، ہنا یانہ مہایانہ، بدھ مکاتب فکر کے اہم رجحانات

۴۔ سکھ مت

سکھ مت کا مختصر تعارف (مذہبی رسومات و تہوار)

گرونانک، تعارف و تعلیمات

گرنٹھ صاحب

۵۔ سماوی ادیان کا ایک تعارف

وحی کا امتیاز و اہمیت، تصور نبوت

حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سامی ادیان میں ان کا مقام (بائبل اور قرآن کی روشنی میں)

حالات زندگی

۶۔ یہودیت

وجہ تسمیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کلدانیوں کا مذہب، ٹوٹم پرستی، قبیلوی مذہب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور نبوی اصطلاحات، یہودیت کا آغاز و ارتقاء، یونانی اثرات، دینی ادب، عہد نامہ قدیم، عروج و زوال، جدید تحریک صہیونیت اور اس کے عزائم

۷۔ عیسائیت/مسیحیت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہود کی دینی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور تعلیمات (اناجیل اور قرآن کی روشنی میں) حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کی تبلیغی مساعی اور ان کے اثرات پولوس عیسائیت کا دور۔ عقائد کا ظہور۔ ابنیت مسیح۔ کفارہ۔ تثلیث۔ عہد نامہ جدید۔ عبادات و اخلاقیات مذہبی مجالس اور تشکیل عقائد پاپائیت کا ارتقاء۔ روحانیت کا ظہور۔ مشرقی و مغربی عیسائیت۔ عہدہ عہد عیسائیت۔ تحریک اصطلاح کلیسا۔ عصر حاضر میں عیسائیت/مسیحیت

۸۔ اسلام

حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے قبل عربوں کے عقائد، اخلاق اور طریق عبادات بعثت محمدی ﷺ کے عقلی دلائل۔ آپ ﷺ کی زندگی اور تعلیمات۔ کردار کی علامت۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں آپ ﷺ کا منفرد مقام۔ قرآن کریم۔ تفصیلی تعارف دیگر الہامی و غیر الہامی کتب سے موازنہ، قرآن کے خصائص دیگر دینی ادب اور فقہی مکاتب فکر۔ دین اسلام آخری اور مکمل ضابطہ حیات

- ختم نبوت ﷺ
- ناموس رسالت ﷺ کا اسلامی تصور و عقیدہ

مجوزہ کتب:

مقارنہ الادیان	ڈاکٹر احمد شلبی
محاضرات فی مقارنہ الادیان	ابوزہرہ
رحمة للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری	رحمت اللہ کیرانوی
اظہار الحق (اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک)	
تاریخ مذاہب پروفیسر رشید احمد	
یہودیت، قرآن کی روشنی میں	سید ابو الاعلیٰ مودودی
عیسائیت، قرآن کی روشنی میں	سید ابو الاعلیٰ مودودی
کتاب الفصل فی الملل والاهواء و النحل	ابن حزم

الشہرستانی	الملل و النحل
عماد الحسن آزاد فاروقی	دنیا کے بڑے مذہب
دانش گاہ پنگاب	اردو دائرہ معارف اسلامیہ (متعلقہ حصے)
G.F. Moor	History of Religions
Relevant Portions	Encyclopedia of Islam Urdu/English
Relevant Portions	Encyclopedia Britannica
Relevant Portions	Encyclopedia of Religions and Ethics
Dr. Hamid Ullah	Introduction to Islam
Khalifa Abdul Hakeem	The Ideology of Islam

تاریخ اسلام

80 نمبر

20 نمبر

چوتھا پرچہ

الف۔ انشائیہ

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

اسلام کی روشنی میں مطالعہ تاریخ کے مقاصد۔ تاریخ نگاری کے اصول اور مسلمان۔

۱۔ (الف) حضرت محمد ﷺ اور سرزمین عرب

ظہور اسلام کے وقت عرب کی سرزمین، معاشرتی و معاشی اور سیاسی حالات، مطالعہ سیرت کی اہمیت، نبی کریم ﷺ ابتدائی زندگی اور بعثت، سیرت نبوی ﷺ کے مکی عہد میں دعوت نبوی ﷺ کی راہ میں حائل مشکلات، قریش مکہ کی مخالفت، صحابہ کرامؓ کی استقامت و بامردی، ہجرت حبشہ، معراج نبوی ﷺ، ہجرت مدینہ، مدنی زندگی، اہل کتاب اور دیگر مسلم اور عرب قبائل سے تعلقات۔ اسلامی ریاست کی ابتدائی، نبی کریم ﷺ کی مخالفین اسلام کے خلاف کاروائیاں۔ غزوات کے مقاصد، حکمت عملی، تعلیمات نبوی ﷺ کے اہم پہلو نبی کریم ﷺ کی ریاستی و سیاسی پالیسی۔ خطبہ حجة الوداع۔ آپ ﷺ کی خانگی زندگی، اخلاق کریمانہ، آپ ﷺ کی نبوی جدوجہد اور کامیابیاں۔

(ب) خلفائے راشدین (خلفاء اربعہ)

عہد خلافت راشدہؓ کے خصائص۔ خلافت راشدہ کے مذہبی اور سماجی کارہائے نمایاں۔ فتوحات اور اسلام کے جدید سماجی اور اخلاقی نظام کا ظہور۔ جاہلانہ نظام کی تبدیلی میں اسلام کا غالب کردار۔

خلفائے راشدین (حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ) کے حالات زندگی، کردار، پالیسیاں اور کارہائے نمایاں۔

(ج) عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس

عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس کی علمی، ادبی، اور تمدنی ترقی۔ اس دور کے فرقے۔ سیاسی زوال کے اسباب و اثرات۔ صلیبی جنگیں۔ اسباب، واقعات اور نتائج، صلاح الدین ایوبی۔ تاتاری حملے اور سقوط بغداد۔

۲۔ مسلمان اور برصغیر پاک و ہند

(الف) اسلام کی آمد۔ مختلف ذرائع

صوفیاء، علماء، تجار، سپہ سالار

(ب) برصغیر میں مسلمانوں کے نمایاں کارنامے

سلاطین دہلی اور مغل حکمران، نظام حکومت، علمی و تہذیبی اور ثقافتی کارنامے، نظام عدل، مذہبی حکمت عملی، سماجی زندگی پر اثرات و نتائج

(ج) برطانوی عہد حکومت

مغلیہ دور کے بعد ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی کود مختاری حکومتوں کا قیام مسلمانوں کی باہمی آویزش۔ انگریزوں کی سازشیں

انگریزوں کی آمد۔ مقاصد۔ اقدامات۔ اثرات و نتائج

(د) مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں اور ادارے (طریق کار اور اثرات و نتائج)

جنگ آزادی، تحریک مجاہدین، تحریک علی گڑھ، تحریک خلافت

ندوة العلماء۔ دارالعلوم دیوبند۔ انجمن حمایت اسلام۔ جامعہ ملیہ دہلی

(ہ) نامور شخصیات اور ان کے کارنامے

مجدد الف ثانی، اورنگزیب عالمگیر، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، سرسید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال، محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، سید ابوالاعلیٰ مودودی۔

(د) تاریخ پاکستان

تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار۔

دو قومی نظریہ، قرارداد مقاصد، اہم سیاسی ادوار، سقوط مشرقی پاکستان، نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ۔ 1977ء یا 1988ء نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ۔ اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں اور سیکولر طبقے کا کردار۔

مجوزہ کتب:

(برائے حصہ اول)

ابن سعد

الطبقات الكبرى

طبری، ابن جریر

تاریخ الرسل و الملوك

السيرة النبوية ابن ہشام

ابن کثیر

البدایة و النہایة

الکامل فی التاریخ ابن اثیر

الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارکپوری

اسوہ حسنہ	محمد ظفیر الدین، مولوی
عہد نبوی ﷺ کے میدان جنگ	گلزار احمد، بریگیڈیئر
حیات رسول امی	گلزار مسعود
عہد نبوی ﷺ میں نظام حکمرانی	محمد حمید اللہ، ڈاکٹر
رسول اللہ ﷺ کی سیاسی زندگی	محمد حمید اللہ، ڈاکٹر
خلق عظیم	خالد علوی، ڈاکٹر
حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق	محمد تقی عثمانی، مفتی
سیر الصحابہؓ	دار المصنفین اعظم گڑھ
سیرت النبی ﷺ	شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی
محاضرات سیرت	محمود احمد غازی
تاریخ اسلام	معین الدین ندوی
روح اسلام (اردو ترجمہ)	امیر علی، سید
تاریخ اسلام	اکبر شاہ نجیب آبادی
تاریخ الاسلام سیاسی (اردو ترجمہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ)	حسن ابراہیم
حسن، ڈاکٹر	
النظم الاسلامیہ (اردو ترجمہ مسلمانوں کا نظام مملکت)	حسن ابراہیم
حسن، ڈاکٹر	
انسان کامل ﷺ	خالد علوی، پروفیسر، ڈاکٹر
حیاء محمد صلعم	ہیکل، محمد حسین
ابوبکر صدیقؓ	ہیکل، محمد حسین
عمر فاروق اعظمؓ	ہیکل، محمد حسین
دنیاۓ عرب	نجلا عز الدین
سیرت الرسول ﷺ	نواب علی، سید
ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ	ثروت صولت
ضیاء النبی ﷺ	محمد کرم شاہ الازہری، پیر

(برائے حصہ دوم)

امام دین	سپین کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ
عزیر محمد	دولت عثمانیہ
اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر	برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ
اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر	سلطنت دہلی کا نظام حکومت
اکرام، ایس۔ ایم۔	آپ کوثر۔ رود کوثر۔ موج کوثر
ابو الکلام آزاد	مسئلہ خلافت
محمد اسحق بھٹی	برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش
محمد اسحق بھٹی	فقہائے ہند
حسن ریاض، سید	پاکستان ناگزیر تھا
ذکاء اللہ دہلوی، مولوی	تاریخ ہندوستان
اکبر شاہ نجیب آبادی	آئینہ حقیقت نما
صبح الدین	ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی کارنامے
	عبد الرحمن
باری علیگ	کمپنی کی حکومت
ریاض حسین بٹالوی	ہماری قومی جدوجہد
ابوالاعلیٰ مودودی، سید	تحریک آزادی ہند اور مسلمان
محمد میاں، مولانا	علمائے ہند کا شاندار ماضی
سالک، عبدالمجید	تاریخ نظریہ پاکستان سید محمد سلیم، پروفیسر
سعید اکبر آبادی	مسلم ثقافت ہندوستان میں
اقبال احمد صدیقی	مسلمانوں کا عروج و زوال
منشی عبد الرحمن	قائد اعظم اور ان کے سیاسی رفقاء
	تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی

خان

Jadoo Nath	Law of the Mughal Empire	Sarkar
N. Merry	Islam in the Sub-Continent	Shemmel
Abu-ul-Hassan	Islam and the World	Ali Nadvi
Hazard, H.W.	An Atlas of Islamic History	
Mahmood, S.F.	A short History of Islam	
Nejla Izzuddin	The Arab World	
Symond	The making of Pakistan	
Abdul Hamid	The Life of Muhammad	Siddiqui
(Ed.) Inamullah Khan	World Muslim Gazetter	
Hameedullah, Dr.	Battle Fields of the Prophet Muhammad (PBUH)	

عربی زبان و ادب

80 نمبر

20 نمبر

پانچواں پرچہ

الف۔ انشائیہ

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

مولانا عبد الستار خان	(پہلے تین حصے)	عربی کا معلم
سورة الرحمن آیات ۴۶ تا ۷۸، سورة النزعت،	سید ابو الحسن علی ندوی	قصص النبیین (چوتھا حصہ)
سورة عبس، سورة الانفطار، سورة الفیل تا سورة	فی ظلال القرآن (منتخب حصہ)	علوم العربیہ
		الناس
		منتخبات (نظم)

حضرت حسان بن ثابتؓ	مدح النبی ﷺ
امیہ بن ابی الصلت	الحمد
ابی القاسم القشیری	اللہ
ابی الفرغ الہمدانی	من آیات اللہ
محمد بن سعید البوصیری	صفة سید المرسلین
سیدنا حسان بن ثابتؓ	جمع کا سد الغاب
زہیر بن ابی سلمیٰ	حکم و تجارب
ابی العلاء المعری	العزائم
الفرزدق	الحب دین
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ	الحکم
غترہ بن شداد العبسی	حق العشیرة
غترہ بن شداد العبسی	الحماسة
غترہ بن شداد العبسی	ایفاظ الرقود
معروف الرصافی	الدنیا قتال
شوقی بک	بابی وامی
سیدنا حسان بن ثابتؓ	الراثی
	مقررہ کتب:

مولانا عبد الستار خان	(پہلے تین حصے)	عربی کا معلم
	سید ابو الحسن علی ندوی	قصص النبیین (چوتھا حصہ)
سید قطب	فی ظلال القرآن (منتخب حصہ)	
ڈاکٹر خورشید رضوی	عربی ادب قبل از اسلام (خطابت، سبع معلقات اور اس کے شعراء)	
ڈاکٹر شبیر منصور	منتخبات (نظم)	

مجوزہ کتب:

النحو الواضح علی الجارم

کتاب النحو عبدالرحمن امرتسری

کتاب الصرف عبدالرحمن امرتسری

ایم اے علوم اسلامیہ

(سال دوم)

فقہ و علوم الفقہ

پہلا پرچہ

- الف۔ تاریخ الفقہ
20 نمبر
- ب۔ اصول الفقہ
20 نمبر
- ج۔ متن الفقہ
40 نمبر
- د۔ معروضی سوالات (مذکورہ تینوں حصوں سے پوچھے جائیں گے)
20 نمبر
- تفصیلات؛

20 نمبر

الف۔ تاریخ الفقہ

فقہ۔ معنی و اصطلاحی مفہوم

قرآن کے فقہی اصول (عدم حرج، قلت تکلیف، تدریج)

فقہ بہ عہد نبوی ﷺ و صحابہؓ (پہلی صدی ہجری)

فقہ بہ عہد تابعین (دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سال)

فقہ بہ عہد تدوین (فقہائے خمسہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری کا دور)

عصر حاضر میں فقہ، ممتاز فقہاء و نمایاں کتب فقہ (محمد ابو زہرہ، محمد و ہبہ

الزحیلی، مصطفیٰ زرقا، مفتی محمد شفیع، موسیٰ جلالزئی)

عصر حاضر کے فقہی ادارے (مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، فقہ اسلامی اکیڈمی انڈیا)

اجتہاد۔ معنی، مفہوم، شرائط اجتہاد و مجتہد کے اوصاف

20 نمبر

ب۔ اصول الفقہ

اصول و ماخذ فقہ (کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس)

عبدالوہاب خلاف کی کتاب اصول الفقہ اور عبدالکریم زیدان کی الوجیز کی روشنی میں

اصول الشاشی سے درج ذیل مباحث:

خاص و عام، مشترك و مؤول، حقيقت و مجاز، مطلق و مجاز، متقابلات النصوص، متعلقات النصوص، امر و نهى

40 نمبر

ج۔ متن الفقہ

سوال متون کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا۔
الفقہ الاسلامی وادلتہ (دکتور وھبہ الزحیلی) الباب السابع الحظر و الاباحۃ
المطلب الاول: انواع الاطعمۃ حکم کل نوع منہا (ج: ۴، ص: ۲۵۹۲)
المطلب الرابع اجابۃ الولا (ج: ۴، ص: ۲۶۱۹)
المبحث الثانی الاشریہ (ج: ۴، ص: ۲۶۲۳)
تا

المبحث الثالث اللبس و الاستعمال و الخلی (ج: ۴، ص: ۲۶۳۱)
الفقہ الاسلامی وادلتہ (دکتور وھبہ الزحیلی) القسم الثانی النظریات الفقہیۃ الفصل الاول نظریۃ الخلی (ج: ۴، ص: ۲۸۳۷)
تا

الفصل الثانی الاموال (ج: ۴، ص: ۲۸۷۴)
بدائع الصنائع از علامہ کاسانی
کتاب الطلاق (باب اول، دوم، سوم)

مقررہ کتب

اصول الشاشی نظام الدین الشاشی
اصول الفقہ عبدالوہاب خلاف
الوجیز فی اصول الفقہ عبدالکریم زیدان
الفقہ الاسلامی وادلتہ محمد وھبہ الزحیلی
بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد ابن رشد

مجوزہ کتب

اصول التشریح الاسلامی علی حسب اللہ
فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول
محمد یوسف فاروقی، ڈاکٹر

ساجد الرحمان صدیقی، ڈاکٹر

فقہ اسلامی کے اصول و مبادی

تاریخ التشریح الاسلامی (اردو ترجمہ مولانا عبدالسلام ندوی) علامہ خضریٰ بک

عبدالرحمن الجزیری

کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ

محاضرات فقہ محمود احمد غازی، ڈاکٹر

تاریخ فقہ اسلامی عبدالسلام ندوی

فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر تقی امینی، مولانا

اسلام اور جدید معاشی افکار

دوسرا پرچہ

80 نمبر

الف۔ انشائیہ

20 نمبر

ب۔ معروضی سوالات (مذکورہ تینوں حصوں سے پوچھے جائیں گے)

تفصیلات؛

I. اسلام اور جدید معاشی افکار

۱۔ علم معاشیات کا تعارف

معاشیات کا معنی و مفہوم۔ آغاز و ارتقاء معاشیات کی اقسام

۲۔ اسلامی معیشت کی بنیادی اقدار

معیشت اور اخلاق کا باہمی تعلق

(الف) اللہ کی رزاقیت (ب)

- (ج) معیشت میں تقویٰ کا کردار
کا تعلق
- (د) سیاست، معیشت اور معاشرے
- (ہ) عدل (و) تعاون
- (ز) ایثار (ح) احسان
- (ط) اخوت

۳۔ اسلامی معیشت کے اساسی تصورات

- (الف) اسلام میں حلال و حرام کا تصور اور اصول
- (ب) کسب معیشت میں جدوجہد کی اہمیت
- (ج) درجات معیشت کا مقصد اور اسلامی فلسفہ
- (د) کفالت عامہ (قرآن، حدیث، عہد خلافت راشدہ کے تعامل کی روشنی میں)
- (ہ) اسلام میں معاشی استحصال کی ممنوعیت
- (و) عصر جدید کے معاشی نظریات و افکار کا اسلامی فکر کی روشنی میں جائزہ
- (ز) برصغیر میں معاشی نظریات کی کشمکش کا جائزہ (سوشلزم، کمیونزم اور سرمایہ داری کے مقابلے میں طبع ہونے والے لٹریچر کا مختصر تعارف)

۴۔ علم معیشت کے ارتقاء میں مسلم مفکرین کا کردار

امام ابو یوسفؒ۔ امام ابو عبید القاسمؒ۔ علامہ ابن حزمؒ۔ شاہ ولی اللہؒ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقیؒ ڈاکٹر یوسف قرضاویؒ

۵۔ اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کا کردار (فرضیت زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ۔ بنیادی مسائل زکوٰۃ)

۶۔ (الف) حرمت سود (حرمت نقصانات۔ متبادلات)

(ب) غیر سودی بنکاری۔ بنکاری سسٹم کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے موجودہ کوششوں کا جائزہ

(ج) انشورنس۔ اس کے ممنوع ہونے کے اسباب۔ اسلام میں اس کا متبادل

۷۔ جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل

بیع و شراء کی صورتیں (قسطوں کا کاروبار۔ حصص کی خرید و فروخت) حقوق مجردہ کی خرید و فروخت۔ قمار کی جدید شکلیں

II۔ اسلامی اور جدید سیاسی نظریات

۱۔ علم سیاسیات، نوعیت، وسعت، اس کے مطالعہ کی اہمیت اور سیاسی نظریات کی مختصر تاریخ

۲۔ اسلامی ریاست کے اہم خصائص اور اساسی تصورات (کتاب و سنت اور خلافت راشدہ کے تعامل کی روشنی میں)

اسلامی دستور حاکمیت الہیہ دین و سیاست کا امتزاج خلافت و امامت شوریٰ بنیادی انسانی حقوق فلاح عامہ۔ عدل

۳۔ اسلامی ریاست اور جہاد

۴۔ جدید سیاسی افکار اور اسلامی سیاسی فکر کا تقابلی مطالعہ

III. اسلام اور جدید معاشرتی نظریات و تحریکات

۱۔ معاشرہ، نوعیت و اقسام، ضرورت و اہمیت، انسان کی معاشرتی فطرت

۲۔ اسلامی معاشرت کی خصوصیات

۳۔ اسلامی معاشرتی اقدار (تعاون۔ ایثار۔ احسان۔ خیر خواہی۔ نصیحت)، اخوت، باہمی معاملات میں اصلاح بین الناس، برائی کے مقابلے میں حسن اخلاق، عفو و درگزر، اعتدال پسندی، قطع رحمی کے مقابلے میں صلح رحمی۔

۳۔ عظمت انسانی اور فرد کا مقام، فرد اور معاشرے کا تعلق (جدید افکار کے تناظر میں)، اسلامی معاشرہ کو مستحکم اور غیر مستحکم کرنے والے عوامل کا مطالعہ، (تشدد پسندی، تعصبات، تنگ نظری، انتشار فکری، خود غرضی، استحصال، تفاخر)۔ (سورۃ الحجرات کے خصوصی حوالے سے)

۴۔ اہم معاشرتی ادارے، خاندان، مسجد، مدرسہ، مارکیٹ، کمیونٹی سنٹرز، عصری ذرائع ابلاغ

۵۔ غیر اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ کا تقابل

۶۔ (الف) عورت کا مقام (اسلامی اور مغربی تصورات کا جائزہ)

(ب) حقوق نسواں کے حوالے سے جدید افکار کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ

(ج) جنسی تفریق کا جدید نظریہ اور اسلام

مجوزہ کتب

ابو یوسف، امام

کتاب الخراج (اردو ترجمہ اسلام کا نظام محاصل)

ابو عبید القاسم بن سلام، امام

کتاب الاموال (اردو ترجمہ)

یحییٰ بن آدم، امام	کتاب الخراج	الہلی
ابن حزم، امام		
ابن خلدون، امام	مقدمہ	
غزالی، ابو حامد، امام	احیاء علوم الدین (اردو ترجمہ مذاق العارفین)	
شاہ ولی اللہؒ	حجۃ اللہ البالغۃ	
عبدالرحمن الجزیری	کتاب الفقہ علی المذابہ الاربعۃ	
مناظر احسن گیلانی، مولانا	اسلامی معیشت	
حفظ الرحمن	اسلام کا اقتصادی نظام	
	سیوہاروی، مولانا	
نور محمد غفاری، ڈاکٹر	رسول اللہ ﷺ کی معاشی زندگی	
نور محمد غفاری، ڈاکٹر	اسلام کا معاشی نظام	
نور محمد غفاری، ڈاکٹر	اسلام کا نظام تکافل اجتماعی	
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	سود	
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	اسلام اور جدید معاشرتی نظریات	
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	مسئلہ ملکیت زمین	
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	معاشیات اسلام	
انور اقبال قریشی	اسلام اور سود	
نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر	انشورنس	
نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر	بلاسود بنکاری	
نجات اللہ	شرکت و مضاربت کے شرعی اصول	
	صدیقی، ڈاکٹر	
نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر	اسلام کا نظریہ ملکیت	
یوسف قرضاوی، ڈاکٹر	فقہ الزکوٰۃ	
یوسف قرضاوی، ڈاکٹر	اسلام اور معاشی تحفظ	
فہیم عثمانی، مولانا	اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو	

خورشید احمد، پروفیسر	سوشلزم یا اسلام
اقبال، علامہ	علم الاقتصاد
حسین خان	سوشلزم اور معاشی ترقی
سید قطب	اسلام اور نظام اشتراکیت
ابن تیمیہ، امام	معرکہ اسلام و سرمایہ داری
الموردی، علامہ	السیاسة الشرعية
حمید اللہ، ڈاکٹر	الاحکام السلطانية
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	عہد نبوی ﷺ میں نظام حکمرانی
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	خلافت و ملوکیت
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	اسلامی ریاست
ابو الاعلیٰ	اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات
	مودودی، سید
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	حقوق الزوجین
ابو الاعلیٰ مودودی، سید	پردہ
ابو الاعلیٰ	اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی
	مودودی، سید
گوہر الرحمن، مولانا	اسلامی سیاست
حامد الانصاری، مولانا	اسلام کا نظام حکومت
ظفیر الدین، مولانا	اسلام کا نظام عفت و عصمت
سید قطب	العدالة الاجتماعية فی الاسلام (اردو ترجمہ اسلام اور عدل اجتماعی)
مصطفیٰ السباعی، ڈاکٹر	اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو
صدر الدین اصطلاحی	اسلام اور اجتماعیت
ڈاکٹر احمد شلبی	تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ (اردو ترجمہ)
خالد علوی، ڈاکٹر	اسلام کا معاشرتی نظام
صلاح الدین	بنیادی حقوق

Hamid ullah, Dr.	Muslim Conduct of state
Sherwani, H.K	Studies in Muslim political thought and administration
Laski, H.J.	A grammar of politics
Louis, w.	Modern political philosophies and what they mean
Sharif, M.M.	History of the Muslim philosophy
Ogburn and Nimkoof	Handbook of sociology
Dr. M. Basharat Ali	Muslims the first sociologist
Mannan, M.A.	Islamic Economics
Ahmed, S.M.	Economics of Islam
Anwar Iqbal Qureshi	Economic order of Islam
Sayyers, F.S.	Modern Banking
Keynes, J.S.	A Treaties on Money
Akhtar, A.M.	Economics of Pakistan
Afzal UrRahman	Economic Dectrines of Islam
Khurshid Ahmed, prof.	Studies in Islamic Economics

اسلام اور سائنس

تیسرا پرچہ [آپشن (1)]

80 نمبر

الف۔ حصہ انشائیہ

20 نمبر

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

۱۔ سائنس کا معنی و مفہوم اور اس کی وسعت، مذہب اور سائنس کا تعلق، (اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ)

سائنسی طریقہ کار مشاہدہ تجربہ۔ اخذ نتائج اور تنظیم نتائج

۲۔ کائنات کا تصور۔ اسلامی اور سائنسی نقطہ نگاہ کا موازنہ۔

کائنات کا آغاز اور ارتقاء۔ کائنات کا آغاز، کائنات کا اختتام، کائنات کی حقیقت، حیات کا آغاز اور حقیقت، ارتقاء

۳۔ اسلام کا تصور سائنس اور اس کے نتائج و اثرات

قرآن کی وہ آیات جن میں سائنس کی طرف اشارات ملتے ہیں وہی آیات اللہ پر ایمان کی مضبوطی، بعث بعد الموت، ظن و تخمین کی بجائے یقین، تردد کی بجائے استقامت کا سبق دیتی ہیں۔ کائنات بے خدا نہیں۔ اثبات توحید (تذکیر بالآلاء اللہ کا مطالعہ)۔ سائنس اور اخلاق کا امتزاج نفع رسانی اور تعمیری پہلو (مسلمانوں کی خدمات سے تاریخی شہادت مختصر طور پر بیان کرنی ہے)

۴۔ (الف) نامور مسلمان سائنسدان

جابر بن حیان، ابوبکر زکریا رازی، ابن الہیثم، ابن سینا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام، ابو القاسم زہراوی، ابن بیطار

(ب) جدید مسلمان سائنسدان

ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر ثمر مبارک مند، ڈاکٹر عبدالسلام اور دیگر لوگوں کا تعارف

۵۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات

سائنسی تحقیق و جستجو کے اسلامی محرکات (قرآن، حدیث، مسلم مفکرین کا فکری منہج)

طب، معالجات، ادویہ

سازی، جراحت، کیمیا، طبیعیات، فلکیات، ریاضیات، حیاتیات، زراعت، جغرافیہ

۶۔ صنعت و فنون

اسلحہ سازی فن تعمیر

مسلمانوں میں سائنسی تحقیق میں پس ماندگی کے اسباب اور اس کے احیاء کی تجاویز

۷۔ اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کی موجودہ حالت

۸۔ عصر حاضر میں سائنسی ترقی اور عالم اسلام کی حالت

مجوزہ کتب:

ابن ابی اصیبعہ

عیان الاتباء فی طبقات الاطباء

عمر فروخ

تاریخ الفکر العربی

ابن

اخبار العلماء باخبار الحکماء (اردو ترجمہ تاریخ الحکماء)

القطفی، جمال الدین

الاسلام والحضارة العربیة (اردو ترجمہ، اسلام اور عربی تمدن از معین الدین ندوی) محمد کرد علی

المقری، احمد بن محمد

نفخ الطیب

نیرو واسطی، حکیم

طب العرب

طفیل

مسلمانوں کے سائنسی کارنامے

ہاشمی، ڈاکٹر

حمید عسکری

نامور مسلمان سائنسدان

رفیع

اسلام اور سائنس

الدین، ڈاکٹر

رفیع

قرآن اور علم جدید

الدین، ڈاکٹر

گستاؤلی بان، (اردو ترجمہ از

تمدن عرب

سید علی بلگرامی)

عبدالسلام ندوی	حکمائے اسلام
شعبہ اردو دائرہ	اردو دائرہ معارف اسلامیہ (متعلقہ حصے)
	معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی
Science & Civilization in Islam	Hussain Nasr Dr.
Making of Humanity	Barifault, Robert
History of Muslim Philosophy	Sharif, M.M.
An Introduction to the history of science	Sarton, George
A History of intellectual	Draper
History of conflict between Science	Development of Europe
	Draper
	and Religion
Arabian Medicine	Brown, E.G.
The Reconstruction of Religious	Iqbal, Allama
	Thought in Islam
The Bible, The Quran and science	Bucoille, Maurice
The Limitations of Science	Sulliman, J.W.N.
Muslim Contribution of Geography	Nafis Ahmed
Legacy of Islam (Ed.)	Arnold & Guillaume
Influence of Islam on World Civilization	Ziauddin Ahmed
The Scientific out look of Arabic	Russel, Bertrand
	Contribution
Arabic Contribution to Medicine	Khair ullah, Ameen
Scientific Method of ibn ul-Haitham	Saud, Dr.
Islam and Evolution of Science	Saud, Dr.
The Scientific Approach	Davis, J.T.

A dictionary of Science	American Council of Learned Societies Biography
Encyclopedia of Islam	American Council of Learned Societies (Relevant Articles)
Encyclopedia Americana	American Council of Learned Societies (Relevant Articles)

اسلام اور فلسفہ

80 نمبر
20 نمبر

تیسرا پرچہ [آپشن (2)]

الف۔ حصہ انشائیہ

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

۱۔ فلسفہ کا تعارف

(الف) مفہوم، وسعت اور مقاصد، معاشرہ پر فلسفے کے اثرات، فلسفہ کی اقسام

(ب) قدیم فلسفیانہ افکار کا مختصر تعارف ہندو فلسفہ، یونانی فلسفہ، نوافلاطونیہ
۲۔ فروغ فلسفہ میں مسلمانوں کا حصہ

(الف) آغاز و ارتقاء

(ب) ابتدائی دور کی اہم کلامی تحریکیں (مقنڈلہ، شاعرہ، جبتہ فرویہ)

(ج) نامور مسلم فلاسفہ

الکندی، الفارابی، رازی، الغزالی، ابن رشد، شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال، سید مودودی

۳۔ اسلام کی روشنی میں فلسفہ کے اہم مسائل

تصور حیات، ذہن و شعور، علم، عقل و وحی، خیر و شر، بعث بعد الموت، لافانیت، مسئلہ تقدیر
(جبر و اختیار)

۴۔ تقابلی فلسفہ

فلسفہ اور مذہب، فلسفہ اور سائنس، فلسفہ اور علم الکلام، یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق
کا تقابل، اسلامی اور یونانی نظریہ علم کا تقابل

۵۔ جدید فلسفیانہ نظریات کا اجمالی و تنقیدی جائزہ

مجوزہ کتب:

فلسفہ کیا ہے؟	وحید عشرت، ڈاکٹر
فلسفے کے بنیادی مسائل	قیصر الاسلام، قاضی
مقالات الاسلامیین	اشعری، ابو
الحسن، علی	
مافی الاسلام	روحی، اصغر علی
تاریخ فلسفہ یونان	نعیم احمد
فلسفہ ہند و یونان	دین محمد شفیقی
تہافتہ الفلاسفہ	الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد
المنفذ من الضلال (اردو ترجمہ سرگزشت غزالی)	الغزالی، ابو
حامد محمد بن محمد	

الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد	مقاصد الفلاسفة
عبدالسلام ندوی	حکمائے اسلام
شاہ ولی اللہ	حجة الله البالغة
علامہ اقبالؒ	تشکیل جدید الہیات اسلامیہ
عبدالسلام ندوی	اقبال کامل
	اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات
	مودودی، ابو الاعلیٰ
مودودی، ابو الاعلیٰ	تنقیحات
لطفی جمعہ	تاریخ فلاسفة الاسلام (اردو ترجمہ از ڈاکٹر میر ولی الدین)
کاندھلوی، محمد ادريس، مولانا	الكلام
شبلی نعمانی	الكلام اور علم الکلام
سیوہاروی، حفظ	اخلاق اور فلسفہ اخلاق
	الرحمن
محمد سلیم، پروفیسر سید	مغربی فلسفہ تعلیم کا تنقیدی مطالعہ
یوسف سلیم چشتی	تاریخ تصوف
عبدالباری ندوی	مذہب اور سائنس
محمد قطب	اسلام اور جدید مادی افکار
M.M.	History of Muslim Philosophy
	Sharif
V. Ferm	A History of philosophical system
Ewing	The fundamental questions of philosophy
Hakim, M.A.	Ideology of Islam
Frost, S.E.	Basic teachings of Great Philosophers
Russell,	History of Western Philosophy
	Bertrand

عالم اسلام کے وسائل و مسائل

تیسرا پرچہ [آپشن (3)]

80 نمبر

الف۔ تاریخ الفقہ

20 نمبر

ب۔ معروضی سوالات

تفصیلات؛

۱۔ عالم اسلام کا تعارف اور جدید دنیائے اسلام

۲۔ عالم اسلام کے وسائل

معدنی، زرعی، صنعتی، درآمدات، برآمدات، افرادی قوت، سائنس اور مہارت
وسائل اور صلاحیتوں کا عمومی جائزہ اور تنظیم

۳۔ عالم اسلام کے مسائل

الف۔ فکری مسائل

اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے
تصادم، مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات، اشتراکیت کی ناکامی اور امت
مسلمہ، گلوبلائزیشن کے اثرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چیلنج

ب۔ عملی مسائل

مسئلہ افغانستان پس منظر، نتائج

مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی حالت، امریکہ، مغربی
ممالک، بھارت، برما، چیچنیا وغیرہ۔

خلیج کی جنگ، اسباب، نتائج، مسئلہ عراق، عالم عرب کی عصری صورتحال

نیو ورلڈ آرڈر، گرین ورلڈ آرڈر، عالمی ادارے اور مسلم دنیا

وسط ایشیاء کے مسلمان اور ان کا تشخص
مسلمان ممالک میں فکری انتشار، سیاسی، معاشی شعبوں میں کسی نظام کا فقدان
وسائل کے استعمال میں عدم منصوبہ بندی
مسلم ممالک کے وسائل کے حوالے سے مغرب کی جارحانہ پالیسی
مسلم ممالک میں رونما ہونے والی عصری تبدیلیاں، ان کے اسباب و پس منظر، متوقع
اثرات

۴۔ اہم عالمی اسلامی تنظیمیں

اسلامی کانفرنس (او۔ آئی۔ سی)

رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ)

مؤتمر عالم اسلامی وغیرہ

۵۔ عالم اسلامی کے استحکام و اتحاد کے لئے تجاویز

نظریاتی وحدت، ضرورت و اہمیت

باہمی تعاون

۱۔ اقتصادی تعاون (مشترکہ تجارتی مندی اور بنک) ۲۔ عسکری تعاون

۳۔ سائنسی اور فنی تعاون ۴۔ تعلیمی تعاون

۵۔ ابلاغ عامہ ۶۔ اسلامی سیکرٹریٹ

۷۔ عالمی اسلامی عدالت

مجوزہ کتب:

یوسف

اسلامی بینکاری، افکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں
قرضاوی، ڈاکٹر

مشتاق علی، سید

قرآن ماضی، ضال اور مستقبل میں

صلاح الدین ناسک

جدید عالم اسلام

فیض احمد

مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا عروج و زوال

شہابی

عبدالحمید	انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام صدیقی
محمد ابو النصر	مسلمانوں کی تہذیب
عطاء الرحمن	سوویت یونین کا زوال
وحید	اسلام اور عصر حاضر الدین، مولانا
ثروت صولت	ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ
غلام جیلانی	یورپ پر اسلام کے احسان برق، ڈاکٹر
غلام جیلانی	الحاد مغرب اور ہم برق، ڈاکٹر
محمد قطب	اسلام اور جدید مادی افکار
ابو الحسن علی	مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش ندوی
ابو الحسن علی	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج پر زوال کا اثر ندوی
سید قطب شہید	اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل
طفیل احمد، سید	مسلمانوں کا روشن مستقبل
ثروت صولت	دنیا میں مسلم اقلیتیں
(گزٹ)	مسلم دنیا (1992ء)
رابرٹ بریفالٹ	تشکیل انسانیت

Urban wealth of Muslim states

A plea for pan-Islamism

Toynlee Arnold J

A study of History

The Arab world-Past, present & Future

A. K. Breehi

Islam in the modern world

M. Khalil proceeding	The Arab states and the Arab league International Islamic Collequium 1957-58 (P.U.Pb)
Pb. Rayad (S.Arabic)	Conferences on Muslim Doctrine & Human Rights in Islam.
Surope Pb.	The Middle East & North Afriqa (LONDON)
Relevant Portions	Encyclopedia of Britannica
Relevant	of Americana Encyclopedia Portions
Relevant Portions	The Encyclopedia of Islam

اسلام اور جدید فکر مغرب

چوتھا پرچہ [آپشن (1)]

80 نمبر

الف۔ حصہ انشائیہ

20 نمبر

ب۔ معروضی سوالات (مذکورہ تینوں حصوں سے پوچھے جائیں گے)

تفصیلات؛

۱۔ اہل مغرب کے فکر کی بنیادیں اور اس کا پس منظر

۲۔ مذہب کے بارے میں مغرب کا طرز عمل اور اس کا پس منظر

۳۔ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کی تحقیقات (تحریک استنراق) کا پس منظر، مقاصد و اہداف اور نوعیت

- ۴۔ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کا اعتراف تعصب
- ۵۔ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کے انداز فکر کا مجموعی تعارف
- (الف) اہل مغرب کا قرآن مجید کے بارے میں رویہ
- (ب) حدیث نبوی ﷺ کے بارے میں نقطہ نگاہ
- (ج) سیرت طیبہ ﷺ کے بارے میں نقطہ نگاہ
- (د) اسلامی تاریخ اور اہم واقعات کو مسخ کرنا
- (ه) مسلم مشاہیر کے بارے میں متعصبانہ رویہ
- ۶۔ اسلام کے نظام اخلاق، نظام معاشرت، سیاست، اسلام کے تصور بین الاقوامیت، جہاد اور مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔
- ۷۔ اسلام کے بارے میں مغربی انداز فکر کے مسلمانوں پر اثرات، تجدد اور اسلام کے بارے میں اعترار کا رویہ
- ۸۔ منفی اثرات کے سدباب کے لئے مسلمان علماء کی کاوشیں
- ۹۔ تحریک الحاد و دھرت سیکولر ازم تحریک مادیت۔ عورت کے مقام و مرتبہ اور حقوق کے حوالے سے مغربی فکر کا اسلامیفکر سے موازنہ۔ حیا کے بارے میں اسلامی اور مغربی فکر کا موازنہ۔ مسلمان ممالک میں اپنے افکار کے نفوذ کے لئے اہل مغرب کی حکمت عملی۔
- ۱۰۔ برصغیر میں ہندوؤں اور عیسائی مشنریز کا لٹریچر اور اسلام، قرآن اور نبی کریم ﷺ کے بارے میں ان کی فکر اور اس کے رد میں مسلمانوں کے لٹریچر کا جائزہ۔
- (الف) مطالعہ مذاہب عالم اور قدیم و جدید تفسیری لٹریچر
- (ب) مطالعہ مذاہب عالم اور سیرت لٹریچر (اہم کتب سیرت کے حوالے سے)
- (ج) برصغیر میں ہندوؤں اور مسیحیوں کامشنری اور الزامی لٹریچر
- (د) غیر مسلموں کے الزامی لٹریچر کا مسلمانوں کی طرف سے رد
- ۱۱۔ مغرب میں مذہب اور سیاست کی بظاہر علیحدگی اور اس کے اسلامی ممالک پر اثرات۔ مسلمانوں سے مخاصمت اور تصادم کی پالیسی اور دوسری طرف مکالمہ بین المذاہب کی کاوشیں۔ دورخی پالیسی کا محرک کیا ہے؟

مجوزہ کتب:

موردی، ابو	تنقیحات الاعلیٰ
سید قطب	الشبهات حول الاسلام. اسلام اور جدید ذہن کے شبہات
برق، غلام	الحاد مغرب اور ہم جیلانی
ابو	مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کا کشمکش الہسن علی ندوی
محمد قطب	اسلام اور جدید مادی افکار
امین، محمد، ڈاکٹر	مسلم نشاۃ ثانیہ، اساس اور لائحہ عمل
ابو الحسن علی	مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں ندوی
ارسلان	اسباب زوال امت (اردو ترجمہ) شکیب
امجد القادری	عروج و زوال امت
جاوید	مغربی تہذیب، ایک معاصرانہ تجزیہ اکبر، انصاری
سعید احمد	مسلمان کا عروج و زوال اکبر آبادی، مولانا مسلمانوں کا روشن مستقبل منگلوری، طفیل احمد
	وثائق یہودیت (یہودی پروٹوکولز کا اردو ترجمہ) ارشد، عبدالرشید
	آخری صلیبی جنگ ارشد، عبدالرشید
تقی	عروج و زوال کا الہی نظام امینی، مولانا
انسٹی ٹیوٹ	مغرب اور اسلام آف پالیسی سٹڈیز

اسلام اپنی نگاہ میں (مؤلفین ساجیکومراتا، ولیم سی چینک)
عمر، محمد (مترجم)

مکالمہ و اتحاد بین المذہب کی مذہبی بنیادیں (امکانات، فوائد، تجاویز)
صلاح الدین ثانی، ڈاکٹر

مذہب عالم اور معاشرتی و سیاسی جائزہ
المسدوسی، احمد عبداللہ

ادریس سیرت المصطفیٰ ﷺ
کاندھلوی، محمد، مولانا

امیر الدین گفتگو کا سلیقہ
مہر، پروفیسر

انور این جی اوز، اہداف، ترجیحات
ہاشمی

برکت مغلیہ سلطنت اور مسیحیت
اللہ، پادری

ذاکر مذاہب عالم میں تصور خدا
نائیک، ڈاکٹر

ذاکر اسلام، دہشت گردی یا عالمی بھائی چارہ
نائیک، ڈاکٹر

زاہد اسلام این جی اوز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں
سیرت انبی ﷺ

سید مودودی، مولانا سیرت سرور عالم ﷺ
اسلام اور مغرب کی کشمکش

مترجم ایوب عزت بیگوچ

منصور پوری، سلیمان رحمة للعالمین
سلمان، قاضی

Clash of Civilization (اردو ترجمہ تہذیبوں کا تصادم از محمد

Hentington, S.P.

احسن بٹ)

Orientalism

Said, Edward, W.,

Muslims and the West	Z.I. Ansari,
Islam and the West Alijah Izzat Begovic	
Islam verses west	Maryam Jamila
Islam verses Ahl-ul-Kitab	Maryam Jamila
Orientalism	Maryam Jamila
Islam in theory and Practice	Maryam Jamila
اردو ترجمہ (اسلام ایک نظریہ ایک تحریک)	
Islam and Modernism in Egypt	Charts, C, Adam
اردو ترجمہ اسلام اور تحریک تجدید مصر میں)	
Spirit of Islam	Ameer Ali, Syed
(اردو ترجمہ روح اسلام)	

اسلامی اخلاق و تصوف

چوتھا پرچہ [آپشن (2)]

۱. اخلاق

۱. اسلام کا تصور اخلاق (قرآن و سنت کی روشنی میں)
 ۲. فضائل اخلاق محرک، معیار، ما بعد الطبیعی اساس نمونہ کمال
 ۳. ردائل اخلاق، اسباب و محرکات
 ۴. مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ
 ۵. مختلف مذاہب کا تصور اخلاق
 - یہودیت، مسیحیت، زرتشت، کنفیوشس، ہندو، ندھ، سکھ
 - کمیونزم و اشتراکی فلسفہ اخلاق مغرب کی مادی فکر اور اخلاق
 ۶. مختلف شعبہ زندگی میں اخلاقی تعلیمات
- عائلی زندگی کے اخلاقی ضوابط، معاشرتی زندگی کے اخلاقی ضوابط، سیاسی اخلاقیات، معاشی اخلاقیات، اسلام کا بین الاقوامی ضابطہ اخلاق، عسکری زندگی اور اسلامی اخلاقیات، جنگی قیدیوں کے حوالے سے اخلاقی ضوابط، ابلاغیات

(میڈیا) کے حوالے اخلاقی ضوابط، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ کے لئے
اخلاقی ضوابط

۲. تصوف

- ۱- تصوف کی تعریف، اہمیت، اس کے مقصد
- ۲- تصوف کے مآخذ، آغاز و ارتقاء
- ۳- انبیاء کرام کی وحی اور صوفیاء کرام کے کشف و الہام میں فرق و امتیاز
- ۴- قلبی واردات اور ان کی حقیقت
- ۵- مشہور سلسلہ ہائے تصوف
- ۶- نظریہ وحدۃ الوجود (ابن عربی) اور نظریہ وحدۃ الشہود (مجدد الف ثانی)
- ۷- عالم اسلام بالخصوص برصغیر کے مشہور صوفیاء
جنید بغدادی، امام قشیر، امام غزالی، علی ہجویری، بایزید بسطامی، ابو الحسن
خرقانی، ابن عربی، خواجہ باقی باللہ، مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحق، محدث
دہلوی، خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، شاہ ولی اللہ دہلوی۔
- ۸- برصغیر میں تصوف کے ارتقاء کا ایک جائزہ
- ۹- راہبانہ (غیر اسلامی) نظریات، تحریکات کا تنقیدی جائزہ
- ۱۰- دور جدید میں تصوف کی نوعیت، اس کا کردار اور ضرورت اصلاح تصوف
کے مؤیدین اور مخالفین کے نقطہ نگاہ کا مطالعہ
- ۱۱- علم تصوف کی مشہور کتب کا تعارف

مجوزہ کتب:

امام غزالی	احیائے علوم الدین
امام غزالی	المنقذ من الضلال
حفظ الرحمن	اخلاق اور فلسفہ اخلاق سیوہاروی
سید سلیمان ندوی	سیرت النبی (جلد ششم)
خطیب تبریزی	مشکوٰۃ المصابیح (کتاب الآداب)

الامام عبدالكريم طلحه	الرسالة القشيرية القشيري
النصر سراجؒ	كتاب اللمع
سيد على هجويريؒ	كشف المحجوب
كلا بازي	كتاب التعرف
ابن عربيؒ	نصوص الحكم
شيخ احمد سرهنديؒ	مكتوبات
شيخ عبدالحق محدث دهلويؒ	اخبار الاخيار
شيخ شهاب الدين سهرورديؒ	عوارف المعارف
نظام الدين اولياء	فوائد الفوائد
شاه ولي الله دهلويؒ	القول الجميل
شاه ولي الله دهلويؒ	نسخات
شاه ولي الله دهلويؒ	فيوض الحرمين
عبدالكريم الجيلي	فيصله وحدة الوجود و الشهود الانسان الكامل
خليق احمد نظامي	تاريخ مشائخ چشت
عبدالمجد دريا آبادي	تصوف و اسلام
محمد مصطفى حليمي	الحياة الروحية في الاسلام
اشرف على تهانويؒ	التكشف عن مهات التصوف
غلام سرور	حديثه الاولياء
سيد صباح الدين	بزم صوفيه طبع اعظم گڑھ عبدالرحمن

اردو دائرہ

دانش گاہ پنجاب (متعلقہ حصے)
معارف اسلامی

دعوة و ارشاد

پانچواں پرچہ

۱. دعوت و تبلیغ

لغوی معانی و مفہیم قرآنی مترادفات دعوت، ضرورت و اہمیت، اغراض و مقاصد، اقسام دعوت، قرآن و سنت کی روشنی میں داعی الی اللہ کی صفات، اہل کفر سے دوستی اور دشمنی کے قرآن و نبوی احکامات۔

۲. تاریخ دعوت انبیاء

دعوت انبیاء کے مشترکہ نکات، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔

۳. دعوت خاتم الانبیاء ﷺ

نبی اکرم ﷺ کا اسلوب دعوت و تبلیغ، مکی دور اور اساسیات دعوت دین، مدنی دور اور اسلامی حکومت کا دعوتی کردار، معاہدات نبوی ﷺ، دعوتی مکتوبات، بارگاہ نبوی ﷺ میں وفود کی آمد، جہاد و قتال

۴. صحابہ کرامؓ کا دعوتی کردار

حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ، حضرت مصعب بن عمیرؓ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمیٰؓ۔

۵. صلحاء امت کا دعوتی کردار

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ، امام ابو حنیفہؓ، امام احمد بن حنبلؓ، امام مالکؓ، امام ابن تیمیہؓ، خواجہ معین الدین چشتیؓ، مجدد الف ثانیؓ، شاہ ولی اللہؓ، سید احمد شہیدؓ۔

۶. دعوتی تحریکات

سلفی تحریک (سعودی عرب)، مہدی تحریک (سوڈان)، نورسی تحریک (ترکی)، الاخوان المسلمون (مصر) سنوسی تحریک (الجزائر)، تحریک مجاہدین، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی۔

۷. عصر حاضر میں دعوت دین، ذرائع و وسائل، مشکلات و موانع

مساجد کا دعوتی کردار، تعلیمی ادارے اور دعوت دین، تصنیف و تالیف اور رسائل و جرائد کی دعوتی اہمیت، دینی و دعوتی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ پر اہل اسلام کی دعوتی سرگرمیاں، پاکستان کے سرکاری دینی و دعوتی ادارے۔

یہود و نصاریٰ کی مشنری سرگرمیاں، مغربیت اور اس کے اثرات، اشتراکیت، جمہوریت، میڈیا، منکرین ختم نبوت کی سازشیں، فرقہ پرستی۔

۸۔ غیرمسلموں کو اسلام کی دعوت، ضرورت و اہمیت، اسلوب و منہج

۹۔ عملی کام

(الف) حفظ قرآن۔ سورۃ البقرۃ (پہلا، چوننٹیسواں اور آخری رکوع) سورۃ النور (پانچواں رکوع)، سورۃ الحشر (آخری رکوع) سورۃ الصف (مکمل)

(ب) روزمرہ کی مسنون دعائیں

دعا جنازہ، خطبہ جمعہ و عیدین (یہ صرف طلبہ کے لئے ہے)

(ج) درس قرآن و حدیث اور تحریر و تقریری عملی تربیت، دعوت کے موضوعات پر تعارف اردو کتب

مجوزہ کتب:

اصول الدعوة	عبدالکریم زیدان
دعوت دین اور اس کے طریق کار	امین احسن گیلانی
رسول اکرم ﷺ کی حکمت انقلاب	سید اسعد گیلانی
تبلیغ کی حکمت	محمد عبد الحی
رسول اکرم ﷺ کی اصول تبلیغ	سید سلیمان ندوی
اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اصول	قاری محمد طیب
تاریخ الدعوة الاسلامی	شیخ محمد الغزالی
تاریخ دعوت و عزیمت	ابو الحسن علی ندوی
الدین العالمی و منہج الدعوة الاسلامیة	شیخ محمد الغزالی
دراسات فی الدعوة	ڈاکٹر بلقاجی
دراسات فی مسائل الدعوة و سیر الدعوة	ڈاکٹر بلقاجی
قصص القرآن	حفظ الرحمن سیوہاروی

ابوالاعلیٰ مودودی	سیرت سرور عالم ﷺ
شبلی نعمانی، سلیمان ندوی	سیرة النبی ﷺ
نعیم صدیقی	محسن انسانیت ﷺ
یوسف	دعوت دین اور اس کے علمی تقاضے القرضاوی
بہی النحوالی	تحریک اور دعوت
محمد یوسف اصلاحی	داعی اعظم
مریم جمیلہ	اسلام ایک نظریہ ایک تحریک (اردو ترجمہ)
ڈاکٹر عبدالغنی فاروق	ہم کیوں مسلمان ہوئے؟
پروفیسر خورشید	اسلامی نظریہ حیات احمد
پروفیسر سید محمد سلیم	قومیت و وطنیت
محمد قطب	اسلام اور جدید مادی افکار
صدر الدین اصلاحی	فریضہ اقامت دین
جلال الدین عمری	معروف و منکر
طالب ہاشمی	وفود عرب بارگاہ نبوی ﷺ میں
آباد شاہ پوری	دعوت و عزیمت کے روشن ستارے
فتح یکن	کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل
مسعود عالم ندوی	محمد بن عبدالوہاب ایک بدنام مصلح؟
جلال الدین عمری	مسلم خواتین کی دعوتی ذمہ داریاں
ڈاکٹر خالد علوی	اقبال اور احیائے دین
ابو الاعلیٰ مودودی	تجدید و احیائے دین
ابو الاعلیٰ مودودی	دینیات
محمد سعید البوطی	فقہ السیرة
شیخ عبدالوہاب	قصص الانبیاء

ڈاکٹر محمد طین

تاریخ الانبیاء فی ضوء القرآن الکریم و السنة النبویة
النجار

پروفیسر امین

دعوت و تبلیغ میں مسجد کا کردار
الدین مہر

ڈاکٹر

جدید نظریات کی شکست اور اسلامی نظام کی ضرورت
عباسی مدنی

پاکستان اور عالم اسلام سے شائع ہونے والے معروف دینی و علمی رسائل سے استفادہ

M.A Arabic (Part-1) Syllabus

(Paper: I , II , III , IV , V)

مقرر الماجستير فی العربية للسنة الاولى

Paper I	۱۰۰ علامہ	تطبيق القواعد العربية	1- المادة الاولى
Paper II	۱۰۰ علامہ	الانشاء والمحادثة (25 + 75)	2- المادة الثانية
Paper III	۱۰۰ علامہ	النثر الحديث	3- المادة الثالثة
Paper IV	۱۰۰ علامہ	النثر القديم	4- المادة الرابعة
Paper V	۱۰۰ علامہ	الادب الديني	5- المادة الخامسة

M.A Arabic (Part-1) Paper I

١٠٠

تطبيق القواعد العربية علامة :

١- المادة الاولى

(Applied Grammar)

اولا: عناوين النحو

- الكلمة العربية و اقسامها ❖
- التذكير والتانيث ❖
- المفرد والمثنى والجمع و انواعه ❖
- التنكير والتعريف و انواع المعرفة (الضمائر، العلم ، اسم الاشارة، اسم الموصول، المعرف باللام ، الندأ) ❖
- المركب الاضافى ❖
- المركب التوصيفى ❖
- المركب العددى ❖
- المعرب المبني ❖
- المنصرف و غير المنصرف ❖
- حروف الجر ❖
- ادوات الاستفهام ❖
- ان و اخواتها ❖
- كان و اخواتها ❖
- الاسماء الخمسة و اعرابها ❖

افعا المقاربة والرجاء والشروع	❖
الفاعل	❖
نائب الفاعل	❖
(المفعول المطلق، المفعول به، المفعول له، المفعول لاجله، المفعول معه)	❖
المفاعيل الخمسة	❖
ظن و اخواتها	❖
الحال	❖
التمييز	❖
اسلوب الاستثناء	❖
نواصب الفعل المضارع و جوازمه	❖
العطف	❖
التوكيد	❖
اسلوب التعجب	❖
الاسم المقصور و المنقوص الممدود	❖
النسب	❖
لا النافية العاملة عمل ليس	❖
لا النافية للجنس	❖
الجملة الاسمية (المبتداء والخبر)	❖
الجملة الفعلية و انواعها	❖

ثانيا: عناوين الصرف

الحرف الاصلى و الحرف الزائد	❖
انواع الفعل (ماض و مضارع و امر و نهى)	❖
الفعل المجرد والفعل المزيد فيه	❖
انواع الفعل المزيد فيه--- مزيد الثلاثي	❖
انواع الفعل المزيد فيه--- مزيد الرباعي	❖
الفعل اللازم و الفعل المتعدى	❖
الفعل الصحيح والفعل المعتل	❖
الاسم الجامد والاسم المشتق	❖
مصادر الافعال الثلاثية	❖
مصادر الافعال غير الثلاثية	❖
اسم المرة والهيئة والمصدر الميى	❖
اسم الفاعل	❖
اسم المفعول	❖

❖	صيغ المبالغة
❖	اسماء المكان والزمان
❖	اسم التفضيل
❖	اسم الآلة

الكتب المقترحة

- ١- عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه ، الكتاب: تحقيق د، اميل بديع يعقوب، دار الكتب العملية ، بيروت ، ١٩٩٩ م
- ٢- عبد الرحمن الجامي، شرح الجامي على الكافية، قديهي كتب خانه كراتشي
- ٣- جامع الدروس للغلابيني، دار العلم للملايين، بيروت
- ٤- د، محمود اسماعيل صبيني، القواعد الميسرة، جامعة الملك سعود، رياض
- ٥- د- فاعبد الرحيم، دروس اللغة العربية، دار العلم، اسلام آباد
- ٦- علي الجارم و مصطفى امين، النحو الواضح، اسلامى اكادمى، لاهور
- ٧- ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف)، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك: دار الجيل، بيروت، ط، هـ، ١٩٨٩ م
- ٨- ابو الفتح عثمان بن جنى ، سر صناعة الاعراب: دار القلم، دمشق ، ط ا ، ١٩٨٥ م
- ٩- على بن محمد الاشمونى، شرح الاشمونى (على الفية ابن مالك): تحقيق محى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط ا ، ١٩٩٠ م
- ١٠- ابن عقيل، شرح ابن عقيل(على الفية ابن مالك)، دار جروس ، لبنان، ط ا ، ١٩٩٠ م،
- ١١- ابن يعيش، يعيش بن على، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت
- ١٢- ابو اسحاق الزجاج، ما ينصرف وما لا ينصرف: لجنة احياء التراث الاسلامى الجمهورية العربية المتحدة، ط ا ، ١٩٧١ م
- ١٣- المولوى عبد الستار، معلم عربى اداره اسلاميات، لاهور
- ١٤- الدكتور خالق داد ملك، تطبيق القواعد العربية، آزاد بك دپو ، لاهور

M.A Arabic (Part-1) Paper II

١٠٠ ٢- المادة الثانية تطبيق القواعد العربية علامة :

الحكايات والرسائل والطلبات والمقالات والحوارات

Composition & Conversation

(Stories, Letters, Application)

طريقة الانشاء والترسل واستخدام علامات الترقيم

(١) الطلبات

- ❖ طريقة كتابة الطلبات
- ❖ الطلب الى السفير السعودي لتأشيرة العمرة والزيارة
- ❖ الطلب الى رئيس قسم اللغة العربية للالتحاق بالقسم
- ❖ الطلب الى مدير مكتب التوظيف للوظائف الشاغرة
- ❖ الطلب الى رئيس قسم اللغة العربية للمساعدة المالية والاعفاء من الرسوم
- ❖ الطلب الى رئيس قسم اللغة العربية للحصول على اجازة
- ❖ الطلب على رئيس قسم اللغة العربية للاشتراك في الرحلة الجامعية

(٢) الرسائل

- ❖ طريقة كتابة الرسائل
- ❖ من والد الى ولده يحضه على الاجتهاد ويوصيه بالماشرة الحسنة
- ❖ من ولده الى والده يخبره عن سيره في الدراسة
- ❖ تهنئة صديق بعيد الفطر

- ❖ من صديق الى صديقه يعزىه على وفاة والده
- ❖ الى مدير مكتبة تجارية لارسال الكتب
- ❖ من صديق الى صديقه يدعوه لزيارة قريته

(٣) الحكايات

- ❖ كما تدين تدان
- ❖ الصديق لوقت الضيق
- ❖ من حاول الخداع خدع
- ❖ لكل عمل رجال
- ❖ من جد وجد (الحاجة ام الاختراع)
- ❖ فكر في الخروج قبل الدخول
- ❖ مل جزاء الاحسان الا الاحسان-

(٤) الموضوعات المختارة

- ❖ الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم
- ❖ لماذا انشئت باكستان
- ❖ القائد الاعظم محمد على جناح
- ❖ العلامة محمد اقبال
- ❖ محمد بن قاسم
- ❖ القرآن الكريم
- ❖ اللغة العربية في باكستان و اهميتها

(٥) الحوارات

- ❖ ماذا رايت اليوم
- ❖ جامعتنا
- ❖ مدينتنا
- ❖ مطالعة الكتب
- ❖ الصحف والجرائد
- ❖ البريد
- ❖ المصرف
- ❖ الحاسوب العالى
- ❖ مواعيد الدراسة
- ❖ القطار
- ❖ الهوايات
- ❖ التسوق
- ❖ المهن

❖ اللغة العربية
❖ العالم الاسلامى

الكتب المقترحة

- ١- سمير عبد الحميد ابراهيم، اقراء العربية و تحدث بها، لاهبور، ملك بك دپو، ١٩٧١،
- ٢- محمد اسماعيل و آخرون، العربية للناشئين، دار الثقليين، قم، البعة الثالثة، ٢٠٠٠م،
- ٣- ابو الحسن الندوى ، قصص النبيين ، كراتشى، مجلس نشریات اسلام
- ٤- محمد بشير، مفتاح الانشاء ، اسلام آباد، دار العلم، الطبعة الاولى، ١٩٩٥م
- ٥- عبد الرزاق سکندر، الطريقة العصرية في تعليم اللغة العربية، مكتبه سيد احمد شهيد، لاهبور، ١٩٩٦م
- ٦- كيف تكتب اجمل رسالة عصرية في جميع المناسبات، بدون ذكر المصنف، لاهبور، المكتبة العلمية
- ٧- الاسلوب الصحيح في الانشاء ، تاليف جماعة من الاساتذة، المكتبة العلمية ، لاهبور
- ٨- عبد الفتاح صبرى بك، القراءة الرشيدة ، على عمر بك، دار المعارف مصر
- ٩- محمود اسماعيل صينى، تكلم العربية ، ناصف مصطفى عبد العزيز ، مختار الطاهر حسين، جامعة الملك سعود
- ١٠- خالق داد ملك، مباحث في الانشاء والمحدثه، آزاد بك دپو، لاهبور، الطبعة الاولى، ١٤٢٤هـ
- ١١- عبد الرحمان ابراهيم الفوزان، العربية بين يديك، مؤسسة الوقف الاسلامى، الرياض، الطبعة الاولى، ١٤٢٣هـ بمطابق ٢٠٠٢م

M.A Arabic (Part-1) Paper III

١٠٠ النثر الحديث علامة : الثالثة ٣- المادة

(Modern Prose)

القسم الاول: القصة القصيرة

❖ الذكرى (من العبرات)

مصطفى لطفى المنفلوطى ، حياته و خدماته الادبية

❖ مات اهلى (من العواصف) ص : ١٠١-٩٧

جبران خليل جبران، حياته و خدماته الادبية

❖ النثر المعبود (من ممس الجنون ، الاعمال الكاملة)

نجيب محفوظ: حياته و خدماته الادبية

❖ تقرير السيدة راء عن رحلتها الى اسبانيا فى الثالث من اكتوبر ٢٠٠٠ م

تقارير السيدة راء ، مجموعة قصصية، (ص: ١١٤-٩٩)

رضوى عاشور : حياتها و خدماتها الادبية

❖ انا سعيد " قصة موضوعة"

احمد براق: حياته و خدماته الادبية

❖ نفس كريمة

يوسف السباعى: حياته و خدماته الادبية

القسم الثانى: المسرحية

❖ اريد ان اقتل

توفيق الحكيم: حياته و خدماته الادبية

القسم الثالث: الرواية

❖ دعاء الكروان:

طه حسين: حياته و خدماته الادبية

نظرة عابرة على الرواية

دراسة النص

❖ الاشواك

سيد قطب شهيد: حياته و خدماته الادبية

نظر عابرة على الرواية

دراسة النص (الباب الاول)

❖ واحد الغروب

بهاء طاهر : حياته و خدماته الادبية

نظر عابرة على الرواية

دراسة النص (القسم الاول: ص ٨-١٤٣)

الكتب المقترحة

١- الزيات، احمد حسن ، تاريخ الادب العربي، قديى كتب خانه ، كراتجى

٢- فاخورى، حنا: الجامع فى التاريخ الادب العربى، دار الجيل، لبنان

٣- مندور الدكتور محمد، مسرح توفيق الحكيم، القاهرة- ١٩٦٠ م

٤- هيكل ، احمد، الادب القصصى و المسرحى فى مصر، دار المعارف ، القاهرة

٥- جويبر، رشيدة: الادب العربى الحديث، المكتبة العلمية ، لاهور

٦- جبران جبران خليل، المجموعة الكاملة للمؤلفات، دار صادر ، بيروت

٧- المنفلوطى، مصطفى لطفى، العبرات، مكتبة نعمانى ، لاهور

٨- ضيف ، شوقى: الادب العربى المعاصر فى مصر، دار المعارف، القاهرة

٩- سليمان، موسى: الادب القصصى عند العرب، دار الكتاب اللبنانى، بيروت

١٠- القط، الدكتور عبد القادر: فن المسرحية، الشركة المصرية لعالمية للنشر، لونجمان ١٩٩٨ م

١١- عاشور، رضوى: تقارير السيدة راء، مجموعة قصصية، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الاولى ٢٠٠١ م

١٢- سيد قطب شهيد: الاشواك ، دار الشروق، بيروت

- ١٣- هلال ، محمد غنيى، المدخل الى النقد الادبى الحديث، القاهرة، ١٩٦٢ م
- ١٤- عبد القدير، الدكتور الحافظ: تاريخ الادب العربى ، مكتبة آزاف لاهور، ٢٠٠٤ م
- ١٥- طه حسين، الدكتور: المجموعة الكاملة للمؤلفات، دار الكتاب، بيروت
- ١٦- طاير، بهاء: واحد الغروب ، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، مارس ٢٠٠٨ م
- ١٧- مفيد، حنان: يوسف السباعى سبعة وجوه ، دار الشروق ، القاهرة، الطبعة الاولى ٢٠٠٥ م
- ١٨- راغب، نبيل: فن الرواية، عند يوسف السباعى، مكتبة الخانجى، القاهرة
- ١٩- عبد التواب، محمد سيد: بواكير الرواية دراسة فى تشكيل الرواية العربية، الهيئة العامة ٢٠٠٧ م
- ٢٠- عبود، حنا: من تاريخ الرواية ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٢ م
- ٢١- وادى، د-طه: صورة المرأة فى الرواية المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠ م
- ٢٢- عصفور، د- جابر: زمن الرواية، مكتبة الأسرة ، ١٩٩٩ م
- ٢٣- عبد العال، د- محمد يونس: فى النثر العربى، لونجمان، ١٩٩٦ م
- ٢٤- ابو نضال، نزية: التحولات فى الرواية، دار الفارس، ٢٠٠٦ م
- ٢٥- ابو طالب، ابراهيم: مختارات من القصة اليمينة، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة، ٢٠٠٨ م



M.A Arabic (Part-1) Paper IV

١٠٠ : علامة : النثر القديم الرابعة المادة ٤- المادة

(Classical Prose)

النثر العربي في العصر الجاهلي:

❖ الخطب:

١ - خطبة قس بن ساعدة الأيادي في السوق عطاظ:

ايها الناس! اسمعوا وعوا-----الى----- ايقنت أنى لامحالة

حيث صار القوم صائر (تاريخ الادب العربي، حسن زيات، ص ٢٠)

٢ - خطبة هانئ بن قبيصة الشيباني يحرض قومه على القتال يوم ذى قار

يا معشر بكر----- فما للمنايا من بد (تاريخ آداب اللغة، جرجى زيدان، ج ٣، ص ٣٤)

٣- الوصايا:

وصية أوس بن حارثة لابنه مالك

يامالك، المنية ولا الدنية----- فكلامهما سينحصر - (خزنة الأدب، البغدادي، ج ٣، ص ٨٧)

٤- اوصت اعرابية ابنتها ليلة

ابنتها ليلة زفافها فقالت:

أى بنية —الى آخرها (الادب العربي، حسن زيات ص ٢٤ - ٢٥)

النثر العربي في العصر الاسلامي:

❖ الخطب:

- ١ - خطبة حجة الوداع:
الحمد لله، نحمده و نستعينه----- الى ---- والسلام عليكم ورحمة الله، (العقد الفريد، ج ٤، ص ٥٧-٥٨)
- ٢ - خطبة ابي بكر الصديق رضى الله عنه لما تولى الخلافة:
ايها الناس! نى قد وليت عليكم و لست بخيركم----- حتى أخذ الحق منه - أقول قولى هذا و استغفر الله لى ولكم- (العقد الفريد، ج ٤، ص ٥٩)
- ٣ - خطبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه :
من اراد ان يسأل عن القرآن فليات ابي ابن كعب--- فلئن احسنوا لأحسن اليهم لئن اساء والأئكلن بهم- (العقد الفريد، ج ٤، ص ٦٢-٦٣)
- ٤ - خطبة عثمان بن عفان رضى الله عنه:
اما بعد فانى قد حملت وقد قبلت-----فاعلموا أنها غير تاركة الا من تركها- (تاريخ طبرى، ج ٣، ص ٤٤٦)
- ٥ - خطبة على بن أبى طالب رضى الله عنه :
لما اغار سفيان بن عوف الأسدى على الانبار--- اما بعد فان الجهاد باب من الابواب الجنة--- ولكن لا رأى لمن لا يطاع- (العقد الفريد، ج ٤، ص ٧٠-٧١)

❖ الرسائل:

- ١ - رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى مرقل :
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله ----- الى ---- بأنا مسلمون- (المواهب اللدنية، الجزء الثانى، العلامة القسطلانى، ص ١٣٧-١٣٨)
- ٢ - رسالة عمر رضى الله عنه فى القضاء الى ابي موسى الاشعري رضى الله عنه
من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس: سلام عليك أما بعد فان القضاء----- الى ----
وخزائن----- رحمة الله والسلام- (كتاب الكامل، ج ١، ص ١٩، ٢٠)

❖ الخطب:

- ٣ - خطبة حجاج بن يوسف بعد دير المجاجم:
قال يا اهل العراق ان الشيطان ----- الى ---- وانتم العدة والحذاء--- (البيان والتبيين ، ج ٢، ص ٢٨٧، ٢٨٦، العقد الفريد، ج ٤، ص ١١٥، ١١٧)
- ٤ - خطبة عمر بن عبد العزيز:
ان لكل سفر زادا لا محالة----- الى ---- ثم بكى و بكى الناس معه- (العقد الفريد، ج ٤، ص ٩٢)
- ٥ - خطبة واصل بن عطا رأس المعتزلة:
الحمد لله القديم بلاغاية والباقي بلانهاية----- ولا تسمع منهم نبسا- (الخطايا عند العرب، مجد الخضر حسين، ص ٧٨)
النثر العربى فى العصر العباسى: (دوسرا سمسٹر)

❖ الخطب:

- ١ - خطبة هارون الرشيد:
الحمد لله على نعمه----- واستغفر الله لى ولكم
(العقد الفريد، ج ٤، ص ١٠٢--١٠٤)
- ٢ - كطبة المامون فى يوم الجمعة-----

الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه----- فعال لما يريد

(العقد الفريد، ج ٤، ص ١٠٢--١٠٤)

❖ الرسائل:

- ٣- رسالة ابن العميد الكاتب الى صديقه ابي عبد الله الطبرى
 كتابي اليك، وانا بحال لو لم ينغضها الشوق اليك----- وما القى على بصرى
 (العقد الفريد ابن عبدربه، ج ٤، ص ١٨٥)
- ٤- ابو حيان التوحيدى
 الحقيقة و نسبية المعرفة بها ان الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه---- ونظر الى الكذب كيف دخل عليهم حتى فرقهم
 (العقد الفريد، ج ٣، ص ٢٠٧)

نماذج من النثر الادبى فى العصر العباسى:

١- كليلة و دمنة:

حكاية الحمامة والثعلب و مالك الحزين " قال الملك للفيلسوف: اضرب لى مثلا فى شان الرجل الذى يرى الراى

لغيره ولا يراه لنفسه----- ثم اجهز عليه واكله -

(كليلة و دمنة، ص ٣٥)

٢- الف ليلة و ليلة:

روى انه كان فى قديم الزمان---- الى----- وما اظن انت تقول ذلك الا حسدا -

(الف ليلة و ليلة، ج ١، ص ١١-١٣)

٣- البيان والتبيين للجاحظ:

وسنذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسبقه اليه عربى----- ونطقى ذكرا و نظرى عبرا-

(ج ٢، ص ١٣٦-- ١٣٨)

٤- كتاب الكامل لابن العباس المبرد:

قال ابو عباس : ومن امثال العرب: لم يذهب من مالك ما وعظك الى آخر الباب

(رغبة الأمل من كتاب الكامل، ج ٣، ص ١١-٢)

٥- ادب الكاتب لابن قتيبة:

باب تاويل كلام من كلام الناس مستعمل (يقولون حلب فلان الدمر شطره---- فلان مفهم ، اذا انقطع عن الخصومة وعن قول

الشعر) (ادب الكاتب، ص ٣٧-٤٢)

٦- الأمل لابي على القالى:

مطلب خطبة الاعرابى السائل فى المسجد الحرام و شرح غريب ذلك و حدثنا ابو بكر رحمة الله عليه قال اخبرنا ابو حاتم -----

فاما اليتيم فلا تقهر-

(كتاب الأمل، ص ١١٣-١١٨، المجلد الاول، بيروت)

الكتب المقترحة

1. احمد حسن زيات، تاريخ الادب العربى نثر/ طبعة قديمى كتب خانة، كراتشى
2. الطبرى، تاريخ الطبرى المعروف بتاريخ الأمم و الملوك (الجزء الثالث) منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت
3. ابن عبد ربه الاندلسى، العقد الفريد، دار الكتب العربى بيروت لبنان ١٩٨٣ م
4. الجاحظ، البيان والتبيين تحقيق و تقديم فوزى عطوى ، دار صعب ، بيروت
5. احمد بن محمد القسطلانى، المواهب اللدنيه بالمنح المحمدية، تحقيق صالح احمد الشامى، المكتب الاسلامى ، بيروت ، الطبعة الاولى ١٩٩١ م
6. ابن قتيبة، ادب الكاتب، تحقيق محمد معى الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة ١٩٦٣ م مكتب السعادة مصر

7. ابن للمقفع ، كليلة و دمنة، دارنشر الكتب الاسلامية، شارع شيش محل، باكستان
8. الف ليلة و ليلة، الجزء الاول، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٠ م
9. ابو العباس المبرد، كتاب الكامل، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٧ م
10. ابو على القالي، الأمالي لابي على القالي، طبعة بيروت، ١٩٧٨ م

M.A Arabic (Part-1) Paper V

١٠٠ : علامة : ٥- المادة الخامسة الادب الديني

(Religious Literature)

❖ القرآن الكريم

- ١- الكشاف للزمخشري (سورة آل عمران، الآيات: ٩-١)
- ٢- انوار التنزيل و اسرار التأويل للبيضاوي، (سورة آل عمران، الآيات: ٩-١)
- ٣- تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير الدمشقي، (سورة لقمان، الآيات: ١٩-١)
- ٤- روح المعاني للعلامة محمود الوسي (سورة العصر)
- ٥- في ظلال القرآن لسيد قطب ، (سورة الحجرات، الآيات: ١٣-١)

❖ الحديث النبوي: (مشكوة المصابيح)

كتاب الايمان (الفصل الاول)

- ١- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انما الاعمال بالنيات----- الحديث- (متفق عليه)
 - ٢- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب----- الحديث، (رواه مسلم)
 - ٣- عن ابي هريرة رضى الله عنه ----- الايمان بضع و سبعون شعبة----- والحياء شعبة----- الحديث (متفق عليه)
 - ٤- عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان----- الحديث- (متفق عليه)
 - ٥- عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من اصحابه بايعوني----- فبايعناه على ذلك- (متفق عليه)
- كتاب الايمان (الفصل الثانى)
- ٦- عن معاذ قال قلت يا رسول الله اخبرنى يعمل يدخلنى الجنة----- الا حصائد السننهم- (رواه احمد و الترمذى و ابن ماجه)

٧- عن ابي هريرة--- المسلم من سلم المسلمون ---- والمؤمن من امنه الناس --- هجر الخطايا و الذنوب- (رواه الترمذى والنسائى و البيهقى)

باب الكبائر و علامات النفاق (الفصل الاول)

- ٨- عن ابي هريرة رضى الله عنه --- اجتنبوا السبع المسابقات----- المؤمنين الغافلات، (متفق عليه)
٩- عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه --- اربع من كن فيه كان منافقا خالصا--- واذا خاصم فجر- (متفق عليه)
١٠- (الفصل الثالث) عن معاذ قال اوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات--- واخفهم فى الله- (متفق عليه)

باب الاعتصام بالكتاب والسنة (الفصل الاول)

- ١١- عن عائشة رضى الله عنها--- من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد--- (متفق عليه)
١٢- عن جابر --- فان خير الحديث كتاب الله --- كل بدعة ضلالة--- رواه مسلم
١٣- عن ابي هريرة--- كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى--- ومن عصانى فقد أبى--- (بخارى)
١٤- عب المقدام بن معديكرب--- انى اوتيت القرآن و مثله معه--- كما حرم الله --- (رواه ابو داؤد، الدارمى و ابن ماجه)
١٥- عن ابي هريرة --- من دعا الى هدى--- من اثارهم شيئا --- (رواه مسلم)

الفصل الثانى

- ١٦- عن عمرو بن عوف--- ان الدين بدأ غريبا--- يصلحون ما افسد الناس من بعدى من سنتى--- (رواه ترمذى)
١٧- عن عبد الله بن عمرو --- لياتين على امتى-- ما ان عليه و اصحابى--- (رواه الترمذى)
١٨- عن ابي رافع--- لا الفين احدكم مكتنبا على اريكته--- ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه -- (رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجه و البيهقى فى دلائل النبوة)
١٩- عن مالك بن انس مرسلًا--- تركت فيكم امرين لن تضلوا--- كتاب الله و سنة رسوله--- (رواه فى المؤطا)
٢٠- عن ابن عباس رضى الله عنه : يا ايها الناس انى تارك فيكم امرين ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، كتاب الله و سنة نبيكم- (سنن البيهقى)

كتاب العلم (الفصل الاول)

٢١- عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم --- من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين--- والله يعطى-- (متفق عليه)

الفصل الثانى

- ٢٢- عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سلك طريقا--- فمن اخذه اخذ بحظ وافر- (رواه احمد و ترمذى و ابو داؤد و ابن ماجه و الدارمى)
٢٣- عن ابي هريرة --- من تعلم علما--- مما ينبغى به وجه الله --- يوم القيمة يعنى ربحها--- (رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجه)

٢٤ - عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم--- العلم ثلثه آية محكمة او سنة قائمة--- (رواه ابو داؤد و ابن ماجة)

٢٥ - عن ابي هريرة--- ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه --- من بعد موته- (رواه ابن ماجه و البيهقي في شعب الايمان)

كتاب الطهارة (الفصل الاول)

٢٦ - عن ابي هريرة--- الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا --- اسباع الوضوء على المكاره --- فذلکم الرباط--- (رواه مسلم)

باب المساجد و مواضع الصلوة (الفصل الاول)

٢٧ - عن ابي هريرة --- الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة--- اذا اجتنبت الكبائر- (رواه مسلم)

باب المساجد و مواضع الصلوة (الفصل الاول)

٢٨ - عن ابي هريرة--- سبعة يظلهم الله في ظله--- (متفق عليه)

كتاب الزكوة (الفصل الاول)

٢٩ - عن ابن عباس ،--- بعث معاذا الى اليمن--- ليس بينها م بين الله حجاب--- (متفق عليه)

كتاب الصوم (الفصل الاول)

٣٠ - عن ابي هريرة --- من صام رمضان ايمانا و احتسابا--- من قام رمضان--- (متفق عليه)

كتاب فضائل القرآن (الفصل الاول)

٣١ - عن عثمان قال --- خيركم من تعلم القرآن وعلمه --- (رواه البخارى)

٣٢ - عن ابن عمر --- لا حسد الا على اثنين--- أنا النهار--- (متفق عليه)

كتاب المناسك (الفصل الاول)

٣٣ - عن ابي هريرة --- العمرة الى العمرة--- ليس له جزاء الا الجنة--- (متفق عليه)

كتاب البيوع باب الكسب و طلب الحلال (الفصل الاول)

٣٤ - عن نعمان بن بشير --- الحلال بين و الحرام بين --- الا و هى القلب --- (متفق عليه)

كتاب الجهاد (الفصل الاول)

٣٥ - عن ابي هريرة--- مثل الجهاد في سبيل الله كمثل الصائم--- في سبيل الله- (متفق عليه)

٣٦ - عن سهل ابن سعد--- رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها--- (متفق عليه)

٣٧ - عن انس--- جامدوا المشركين باموالكم و انفسكم و سنتكم -- (رواه ابو داود والنسائي والدارمي)

كتاب الآداب باب السلام (الفصل الثاني)

٣٨ - عن علي--- على المسلم ست بالمعروف --- ويحب له ما يحب لنفسه- (رواه ترمذى و الدارمى)

باب السلام (الفصل الاول)

٣٩- عن ابى سعيد الخدرى----- اياكم والجلوس بالطرقات--- (رواه البخارى)

٤٠- عن ابى هريرة----- ان الله يحب العطاس----- ضحك منه الشيطان- (رواه البخارى)

باب حفظ اللسان والغيبة و الشتم (الفصل الاول)

٤١- عن سهل بن سعد----- من يضمن ما بين لحييه ----- (رواه البخارى)

٤٢- عن عبد الله ابن مسعود----- سباب المسلم فسوق و قتاله كفر- (متفق عليه)

٤٣- عن حذيفة----- لا يدخل الجنة قتات-- (متفق عليه)

٤٤- عن ابى هريرة----- اتدرون ما الغيبة----- فقد بهتهُ----- (رواه مسلم)

الفصل الثانى

٤٥- عن ابن مسعود----- ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذى- (رواه ترمذى و البيهقى فى شعب الايمان)

باب البر والصلة (الفصل الاول)

٤٦- عن ابى هريرة----- من احق بحسن صحابى----- قال ابوك--- (متفق عليه)

٤٧- عن المغيرة----- ان الله حرم عليكم عقوق الامهات--- (متفق عليه)

٤٨- عن ابى هريرة----- اياكم والظن----- كونوا عباد الله اخوانا--- (متفق عليه)

باب الرفق والحياء و حسن الخلق (الفصل الاول)

٤٩- عن النواس بن سمعان----- البر حسن الخلق----- عليه الناس--- (رواه مسلم)

الفصل الثانى

٥٠- عن ابى ذر --- اتق الله حيث ما كنت----- وخالق الناس بخلق حسن--- (رواه احمد و ترمذى و الدارمى)

باب الامر بالمعروف- (الفصل الاول)

٥١- عن ابى سعيد الخدرى----- من رأى منكم منكرا----- اضعف الايمان--- (رواه مسلم)

الفصل الثانى

٥٢- عن ابى ثعلبة الخشعى فى قوله تعالى عليكم انفسكم----- اجر خمسين منكم--- (رواه ترمذى و ابن ماجه)

كتاب الرقاق (الفصل الاول)

٥٣- عن ابن عباس----- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ--- (رواه البخارى)

الفصل الثانى

٥٤- عن ابى هريرة----- ما ينتظر احدكم الا غنى متغيا اور فقرا منسيا---والساعة ادهى و امر--- (رواه الترمذى والنسائى)

باب استحباب المال والعمر للطاعة (الفصل الثاني)

٥٥- عن شداد بن اوس----- الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت--- و تمنى على الله --- (رواه الترمذى و ابن ماجه)

باب الحرص والامل (الفصل الاول)

٥٦- عن انس ---- يهرم ابن آدم و يشب منه اثنان : الحرص على المال و الحرص على العمر--- (متفق عليه)

باب الرياء والسمعة (الفصل الاول)

٥٧- عن ابى هريرة --- ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم- (رواه مسلم)

باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه (الفصل الاول)

٥٨- عن ابى هريرة----- مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ----- وانا خاتم النبيين -- (متفق عليه)

٥٩- عن ابى هريرة----- انا سيد ولد آدم--- واول مشفع --- (رواه مسلم)

٦٠- عن ابى هريرة --- فضلت على الانبياء بست----- و ختم بي النبيون--- (رواه مسلم)

باب مناقب الصحابة (الفصل الاول)

٦١- عن ابى سعيد الخدرى ----- لا تسبوا اصحابى--- (متفق عليه)

٦٢- عن عمران بن حصين-----خير امتى قرنى----- ولا يستحلفون----- (متفق عليه)

الفصل الثانى

٦٣- عن جابر ----- لا تمس النار مسلما رانى --- (رواه ترمذى)

الفصل الثالث

٦٤- عن ابن عمر----- اذا رايتم الذين يسبون اصحابى--- (رواه الترمذى)

باب مناقب ابى بكر (الفصل الاول)

٦٥- عن ابى سعيد الخدرى----- ان من امن الناس ----- لاتخذت ابا بكر خليلا--- (متفق عليه)

٦٦- عن عائشة --- قال لى فى مرضه ----- ادعى لى ----- و يابى الله والمؤمنون الا ابا بكر-- (رواه مسلم)

٦٧- عن محمد بن الحنفية قال قلت لابى ----- ما انا الا رجل من المسلمين---(رواه البخارى)

باب مناقب عمر (الفصل الاول)

٦٨- عن ابى هريرة ----- ولقد كان فى ما قبلكم محدثون ----- فانه عمر --- (متفق عليه)

الفصل الثانى

٦٩- عن ابن عمر --- ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه----- (رواه الترمذى و فى رواية ابى داؤد --- وضع الحق--- يقول به)

باب مناقب ابى بكر و عمر (الفصل الاول)

٧٠- عن ابن عباس ----- قال انى لواقف فى قوم----- ابو بكر فالتفت فاذا على ابن ابى طالب -- (متفق عليه)

٧١- عن ابى بكره ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم روايت كأن ميزانا نزل من السماء ---- فقال : خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء----- (رواه الترمذى و ابو داؤد)

باب مناقب عثمان (الفصل الثانى)

٧٢- عن عبد الرحمن بن سمرة----- جاء عثمان الى النبى صلى الله عليه وسلم ما عمل بعد اليوم مرتين----- (رواه احمد)

٧٣- عن انس----- قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان----- لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم--- (رواه الترمذى)

باب مناقب هؤلاء الثلاثة (الفصل الاول)

٧٤- عن انس ان ----- صعدا احدا ----- شهيدان --- (رواه البخارى)

باب مناقب على ابن ابى طالب (الفصل الاول)

٧٥- عن سعد بن ابى وقاص----- لعلى انت منى ----- لا نبى بعدى--- (متفق عليه)

٧٦- عن زر بن حبيش ----- ان لا يحبنى الا مؤمن ولا يحبنى الا منافق- (رواه مسلم)

باب مناقب العشرة (الفصل الاول)

٧٧- عن عبد الرحمن بن عوف-----ابوبكر فى الجنة----- و ابو عبيدة بن الجراح فى الجنة-- (رواه الترمذى)

باب مناقب اهل بيت النبى ﷺ (الفصل الاول)

٧٨- عن البراء قال لما توفى ابراهيم-----مرضعاً فى الجنة- (رواه البخارى)

٧٩- عن المسور بن مخرمة----- فاطمة بضعة منى --- (متفق عليه)

٨٠- عن ابى بكره --- ان ابى هذا سيد ----- (رواه البخارى)

٨١- عن عبد الرحمن بن ابى نعيم----- هما ر يحانى من الدنيا --- (رواه البخارى)

الفصل الثانى

٨٢- عن جابر قال----- انى تركت فيكم --- وعترتى اهل بيتى-- (رواه الترمذى)

باب بدء الخلق و ذكر الانبياء (الفصل الاول)

٨٣- عن ابى موسى --- كمل من الرجال كثير ---- وفضل عايشة على النساء-- (متفق عليه)

باب مناقب ازواج النبى ﷺ (الفصل الاول)

٨٤- عن على ----- خير نسايتها مريم----- خديجة بنت خويلد----- (متفق عليه)

٨٥- عن عائشة----- ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم----- ان نساى رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزين عايشة ، حفصة ، صفية ، سودة ام سلمة فاحى هذه-- (متفق عليه)

الفصل الثانى

٨٦- عن انس--- حسبك من نساء العالمين و خديجة--- و فاطمة--- و آسية امراة فرعون -- (رواه الترمذى)

٨٧- عن ام سلمة--- دعا فاطمة عام الفتح--- الا مريم بنت عمران فضحكت --- (رواه الترمذى)

باب لا ما يقال عند من حضره الموت (الفصل الاول)

٨٨- عن ام سلمة ام المؤمنين قالت قال----- ما من مسلم تصيبه فاخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم --- (رواه مسلم)

باب الوليمة (الفصل الاول)

٨٩- عن انس --- ما اولم --- ما اولم على زينب او لم شاة---(متفق عليه)

باب القسم (الفصل الاول)

٩٠- عن عائشة--- ان سودة لما كبرت----- يومها و يوم سودة--- (متفق عليه)

الفصل الثالث

٩١- عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم --- وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة--- (متفق عليه)

٩٢- عن ام حبيبة انها كانت تحت عبد الله ابن جحش فمات بارض الحبيشة فزوجها عن النجاشى النبى صلى الله عليه وسلم و امهرها عنه اربعة آلاف وفى رواية اربعة آلاف درهم و بعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة --- (رواه ابو داؤد و النسائى)

٩٣- قال عمر خطب النبى ﷺ الى حفصة فانكحته---(صحيح البخارى مع الفتح ٩/٢٣٨)

٩٤- عن انس ابن مالك ان رسول الله ﷺ اعتق صفيية وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم عليها بحيس--- (صحيح البخارى مع الفتح ٩/٢٨٩)

٩٥- عن ابن عون قال كتبت الى نافع--- ان النبى ﷺ اغار على بنى المصطلق --- واصاب يومئذ جويرية---(صحيح البخارى كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب و باع (فتح البارى ج ٥، ص ٢١٣ والحديث باتفصيل عند ابى داؤد ، كتاب العتق ، ج ٥، ص ٣٩٣ و مسند احمد ، ج ٦، ص ٢٧٧ عن عائشة)

٩٦- عن الزهرى قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية وهى ام المساكين سميت بذلك لكثرة اطعامها لمساكين و توفيت و رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لم تلبث معه الا يسيرا-- (الطبرانى ، ج ٢٤ ، ص ٥٧ وقال عنه الهيثمى فى المجمع ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ورجاله ثقات)

٩٧- عن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالقبط خيرا--- وام ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم منهم---(طبقات ابن سعد، ج ٨، ص ٢١٤ ، دار صادر ، بيروت ١٩٥٨م)

٩٨- عبد الله ابن عباس قال : ان قريشا تواصت بينها بالتمادى فى الغى والكفر، فقال بعضهم : الذى نحن عليه احق مما عليه هذا اصنبور المنبتر، فانزل الله (انا اعطيناك الكوثر--- الى الآخر)

واتاه بعد ذلك خمسة اولاد ذكور، اربعة من خديجة: عبد الله - وهو اكبرهم والطاهر - وقيل : ان الطاهر هو عبد الله ، فهم ثلاثة- والطيب والقاسم و ابراهيم من مارية-

وكان له صلى الله عليه وسلم اربع بنات، منها: زينب - التي كانت تحت ابى العاص ابن الربيع - و رقية، و ام كلثوم وهى كانت تحت عتبه و عتيبة ابنى ابى لهب ، فلم نزلت (تبت يدا ابى لهب---) امرهما بفراقهما- و تزوج عثمان اولا رقية و هاجرت معه الى الحبشة، و لدت هناك ابنه عبد الله ، و به كان يكنى ، ثم ماتت ، و تزوج بعدها ام كلثوم ، و فاطمة و كانت تحت على رضى الله عنه، و لدت له حسن و حسين و محسن و زينب- و كانت تحت عبد الله ابن جعفر- و ام كلثوم - و زوجها على من عمر ابن الخطاب ، اخرجته رزين - (جامع الاصول فى احاديث الرسول للجزرى، ج ٩، ص ١٩٤)

٩٩- عن ابى قتادة الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى و هو حامل امامة بنت زينب--- و اذا قام حملها-- (رواه البخارى)

١٠٠- حدثنا عبد الله حدثنا ابى حدثنا إسماعيل، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: " يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت " ، قالوا: بلغ رسول الله،--- (مسند الامام احمد ، ج ٥، ص ٤١١ حديث رجل من اصحاب النبي ، بيروت، دار الصادر، المكتب الاسلامى للطباعة والنشر، ١٣١٣ هـ)

١٠١- عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة --- ذلك الملك -- (رواه احمد)

١٠٢- عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يزال الاسلام --- كلهم من قريش--- (مشكوة المصابيح ، باب مناقب قريش و ذكر القبائل ، الفصل الاول)

١٠٣- عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختار اصحابى --- والمرسلين (رواه البزار فى مسنده و رجاله موثقون)

١٠٤- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من ينشق عنه --- بين الحرمين -- (رواه الترمذى) مشكوة المصابيح، باب مناقب ابى بكر ، الفصل الثانى،)

١٠٥- عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو بكر و عمر--- النبيين والمرسلين-- (مشكوة المصابيح ، باب مناقب ابى بكر و عمر ، الفصل الثانى)

١٠٦- عن زيد ابن ارقم رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلى مولاه-

(مشكوة المصابيح باب مناقب على رضى الله عنه ، الفصل الثانى)

١٠٧- عن انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ارحم امتى ---: " واقضاهم على --" (مشكوة المصابيح، باب مناقب العشرة المبشرة ، الفصل الثانى ٩)

١٠٨- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : همزة اسد الله--- (سيد الشهداء) --- (منتخب كنز العمال، ج ٥، ص ١٣٨، ٨٤)

١٠٩- عن ابى عبيدة رضى الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف--- العشيـرة--- (مشكوة المصابيح، باب جامع المناقب، الفصل الثالث)

١١٠- وعن عبد الرحمن بن ابى عميرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاوية : اللهم اجعله هاديا و مهديا و اهد به-- (مشكوة المصابيح، باب جامع المناقب، الفصل الثانى)

١١١- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية : اللهم علمه الكتاب و الحساب و فه العذاب--- (كنز العمال ، ج ٧، ص ٨٨)

١١٢- عن ام حرام رضى الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اول جيش --- يغزون البحر--- قال لا--- (صحيح البخارى مع الفتح ، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل فى قتال الروم، ج ٦، ص ١٢٧)

- ١١٣ - عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ان قدم --- هي افضل بناتى اصيبت فيى--- (البيهقى، دلائل النبوة ، ج ٣، ص ١٥٦ / البداية والنهاية ، ج ٣، ص ٣٣١)
- ١١٤ - عن المسور ابن مخرمة رضى الله عنه قال ان عليا خطب ---- فترك على الخطبة --- (صحيح البخارى مع الفتح، ج ٧، ص ١٠٧، ١٠٦)
- ١١٥ - ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ---- (اسد الغابة لابن الاثير، ج ٤، ص ٤١)؛ وروى ان عليا استشهد في حرب اليرموق --(ج رجب ١٥ بجرى)(تاريخ ابن عساکر، الزرقانى ، ج ٣، ص ١٩٧)
- ١١٦ - و ان ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة-- (مشكوة المصابيح ، باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، الفصل الثانى)

الكتب المقترحة

1. موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، دار السلام الرياض ، المملكة العربية السعودية
2. القارى ، ملا على ، مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة
3. المباركفورى، عبید الله ، مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، مكتبة الرحمان السلفية، سرجودها باكستان
4. العسقلانى ، الحافظ احمد بن على بن حجر، فتح البارى شرح صحيح البخارى، قديمى كتب خانه ، كراشى، باكستان
5. العيى، بدر الدين محمود بن احمد ، عمدة القارى شرح صحيح البخارى، دار الفكر بيروت
6. النووى، شرف الدين ، شرح لصحيح مسلم ، دار الفكر ، بيروت
7. الجزرى ، ابن اثير، جامع الأصول في احاديث الرسول ، دار الفكر، بيروت

M.A Arabic (Part-II) Syllabus

مقرر الماجستير في العربية للسنة الثانية

Paper I	١٠٠ علامة	علوم اللسان	1- المادة الاولى
Paper II	١٠٠ علامة	الشعر العربي	2- المادة الثانية
Paper III	١٠٠ علامة	تاريخ الادب العربي	3- المادة الثالثة
Paper IV	١٠٠ علامة	تاريخ الاسلام	4- المادة الرابعة
Paper V	١٠٠ علامة	١- كتابة البحث العلمى (Thesis)	5- المادة الخامسة
Paper V	١٠٠ علامة	٢- الادب العربي في شبه القارة	

M.A Arabic (Part-II) Paper I

١٠٠

علوم اللسان علامة :

١- المادة الاولى

(Sciences of Language)

❖ البلاغة

البلاغة و علومها

١- علم المعانى

١- الخبر والانشاء

٢- الخبر و اضربه ، الغرض منه

٣- الانشاء و تقسيمه الى طلبى و غير طلبى

٤- الفصل والوصل

٥- الايجاز و الاطناب والمساواة

٢- علم البيان

١- التشبيه ، اركانه ، اقسامه ، اغراضه

٢- الحقيقة والمجاز و اقسام المجاز

٣- الاستعارة اركانها و اقسامها: التصريحية والمكنية ، الاصلية و لتبعية

٤- المجاز المرسل : مفهومه و علاقاته

٥- المجاز العقلى

٦- الكناية و اقسامها: كناية عن صفة او موصوف او نسبة

٣- مفهوم " البديع " و تقسيمه الى محسنات لفظية و معنوية

١ - اشهر المحسنات اللفظية: الجناس ، السجع والاقتياس

٢ - اشهر المحسنات المعنوية: الطباق والمقابلة و التورية و حسن التعليل و تأكيد المدح بما يشبه الذم و تأكيد الذم بما يشبه المدح

❖ العروض

١ - العروض لغة و اصطلاحا

٢ - اهم المصطلحات العروضية و الشعرية: القصيدة، القطعة، البيت، الصدر، العجز، العروض، الضرب، الحشو، الزحاف، العلة،

حروف التقطيع، اركان التفاعيل

البحور: (الطويل، البسيط، الوافر، الكامل)

❖ النقد الادبي

١ - النقد الادبي في العصر الجاهلي

٢ - النقد الادبي في العصر الاسلامي

١ - النقد الادبي القديم

١ - محمد بن سلام الجمعي في ضوء مقدمة كتابه طبقات فحول الشعراء

٢ - ابن قتيبة في ضوء مقدمة كتابه الشعر والشعراء

٢ - النقد الادبي الحديث

١ - طه حسين

٢ - عباس محمود العقاد

الكتب المقترحة

١. بدوى ، طبانة (الدكتور): معجم البلاغة العربية، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، ١٤١٨ هـ
٢. التفتازاني، سعد الدين ، مختصر المعاني ، دار الفكر بيروت، لبنان
٣. التفتازاني، سعد الدين ، المطول ، مصر
٤. الجرجاني، عبد القاهر، اسرار البلاغة في علم البيان، دار احياء العلوم ، بيروت لبنان الطبعة الاولى ١٤١٢ هـ
٥. حسن نعناع، عبد الحكيم: المنار في علوم البلاغة، الادارة العامة بالازهر، ١٤٠٦ هـ
٦. حسيب، غالب و اديب صعبى، بيان العرب في المعاني و البيان والبديع والعروض ، بيروت لبنان
٧. السكاكي، ابو يعقوب يوسف بن محمد بن على: مفتاح العلوم دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان
٨. على الجارم و مصطفى امين: البلاغة الواضحة ، لبنان
٩. شازلي، حسن (الدكتور) فرمود وغيرهم : البلاغة والنقد (الصف الاول الثانوى)
١٠. الاصفهاني ، ابو الفرج كتاب الاغانى، دار احياء تراث العربى ، بيروت، ١٤١٨ هـ
١١. امين احمد ، النقد الادبي، مكتبة النهضة المصرية ، مصر الطبعة الثالثة
١٢. ابن قتيبه، ابو محمد عبد الله: الشعر والشعراء ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان
١٣. طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف مصر، ١٩٩٦ م
١٤. ابن جنى، ابو الفتح عثمان : كتاب العروض ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ

.....

M.A Arabic (Part-II) Paper II

٢ - المادة الثانية الشعري العربي علامة : ١٠٠

(Arabic Poetry)

❖ الشعر الجاهلي

تعارف و تمهيد: العصر الجاهلي- المعلقات- اسواق العرب- منزلة الشعر في الجاهلية- اغراض شعر الجاهلي- خصائص الشعر الجاهلي-
رواية الشعر الجاهلي و تدوينه
١- امرى القيس: حياته و خدماته الادبية

معلقه امرئ القيس (١١ بيتا تاليا)

- ١ - قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل بسقطِ اللوى بينَ الدخولِ فحوملِ
- ٢ - كأني غداةَ البينِ يومَ تحمّلوا لدى سمراتِ الحيّ ناقِفُ حنظلِ
- ٣ - وُقوقاً بها صحبي عليّ مطمئنمٌ يقولون لا يهلكُ أسىٌ وتجمّلِ
- ٤ - ألا زُبّ يومٍ لكٍ مئهنّ صالحٍ ولا سيّما يومٍ بدارةٍ جُلجُلِ
- ٥ - أفاطمٍ مهلاً بعضُ هذا التّدلّلي وإن كنتِ قد أزمعتِ صرّمي فأجملي
- ٦ - أغرّك مني أن حَبِكَ قاتلي وأنكٍ مهما تأمري القلبِ يَفعلِ
- ٧ - وما ذرّفتُ عيناكِ إلا لتضربني بسهميكِ في أعشارِ قلبٍ مُقتلِ
- ٨ - ولبيلِ كمّوجِ البحرِ أرنّحى سُدولهُ عليّ بأنواعِ الهمومِ لبيتلي
- ٩ - ألا أيها اللبيلُ الطويلُ ألا انجلي بصُبحٍ وما الإصباحُ منكِ بأمتلِ
- ١٠ - وقد أغتدي والطير في وكنائها بمُنجرِدِ قبيدِ الأوابدِ هيكلِ
- ١١ - مكرّ مفرّ مُقبِلِ مُدبرٍ معاً كجلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ من علِ

٢- طرفة بن العبد: حياته و خدماته الادبية

معلقة طرفة بن العبد (١١ بيتا تاليا)

- ١- لِحَوْلَةَ أَطْلَالٍ بِرُقَّةٍ نَهْمَدِ تَلُوْحُ كِبَاقِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ
- ٢- وقوفا بها صبحي على مطهيم يقولون لا تهلك أسي وتجلد
- ٣- ووجه كأن الشمس ألفت رداءها عليه نقي اللون لم يتخذ
- ٤- إذا القوم قالوا من فتى خلت أني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد
- ٥- فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقطنصني في الحوانيت تصطد
- ٦- وما زال تشرابي الخمر ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي
- ٧- إلى أن تحامتني العشييرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد
- ٨- ألا أيهذا اللائي أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟
- ٩- أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد
- ١٠- وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
- ١١- ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

٥٠- -٧٥)

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص

٣- زهير بن ابى سلى: حياته و خدماته الادبي

معلقة زهير بن ابى سلى (١١ بيتا تاليا)

- ١- أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم
- ٢- وقفت بها من بعد عشرين حجة فألأيا عرفت الدار بعد توهم
- ٣- فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجهرم
- ٤- يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل وميرم
- ٥- تداركتما عيسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
- ٦- وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم
- ٧- رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطى يعمر فهيرم
- ٨- ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم
- ٩- ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم
- ١٠- ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم

١١- وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتي بعد السفاهة يحلم

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص ٧٧-٩٦)

٤- لبيد بن ربيعة: حياته وخدماته الادبية

معلقة لبيد بن ربيعة (٨ ابيات تالية)

١- عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

٢- دمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها

٣- فعلا فروع الأبهقان وأطلقت بالجلهتين ظباؤها ونعامها

٤- وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها

٥- فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها

٦- أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حيائل جذامها

٧- من معشر سنت لهم أبأؤهم ولكل قوم سنة وإمامها

٨- فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص ٩٤-١١٩)

٥- عمرو بن كلثوم: حياته وخدماته الادبية

معلقة عمرو بن كلثوم (٨ ابيات تالية)

١- ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا

٢- وكأس قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق وقاصرنا

٣- أبأ هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقيننا

٤- بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد رويننا

٥- ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبيننا

٦- ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

٧- ته ددنا وأعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتويننا

٨- إذا بلغ الفطام لنا صبي تخرله الجبابر ساجدينا

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص ١٢٢-١٣٧)

٦- عنتره بن شداد: حياته وخدماته الادبية

معلقة عنتره بن شداد (١١ بيتا تاليا)

- ١ - هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
- ٢ - ولقد نزلت فلا نظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم
- ٣ - أثنى علي بما علمت فإنني سمح مخالفتي إذا لم أظلم
- ٤ - وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي
- ٥ - هلا سألت الخيل يابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلني
- ٦ - يخبرك من شهد الوقيعه أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم
- ٧ - يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم
- ٨ - ما زلت أرمهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسريل بالدم
- ٩ - فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم
- ١٠ - لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي
- ١١ - ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص ١٤٠-١٥٧)

٧- الحارث بن حلزة اليشكري: حياته و خدماته الادبية

معلقه الحارث بن حلزة اليشكري (٧ ابياب تالية)

- ١ - أذنتنا يبينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء
- ٢ - بعد عهد لها ببرقة شما ء فأدنى ديارها الخلصاء
- ٣ - وأتانا من الجوادث والأنبا ء خطب نعتي به ونساء
- ٤ - إن إخواننا الأراقم يغلو ن علينا في قيلهم إحفاء
- ٥ - يخلطون البريء منا بذئ الذئب ولا ينفع الخلي الخلاء
- ٦ - أمها الناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء
- ٧ - لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء

(المعلقات السبع مع شرح الزوزني، ص ١٥٩-١٨٨)

❖ شعر صدر الاسلام

تعارف و تمهيد: عصر صدر الاسلام ، الشعر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين --- موقف الاسلام من الشعر ---

الخصائص الفنية للشعر في هذا العصر

١- حسان بن ثابت رضى الله عنه (٩ بيتا)

١- قال حسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم و صحابته:

فلما اتانا رسول المليك بالنور والحق بعد الظلم

الى فقمنا باسيا فنادونه نجالد عنه بغاة الامم

٢- الخنساء رضى الله عنها قصيدة كأن عيني فيض لذكراه (٩ ابيات)

١- قَدَى بَعِينِكَ أُمُّ بِالْعَيْنِ عَوَّازُ أُمُّ ذَرَفَتْ أَنْ خَلَّتْ مِنْ أَهْلِهَا الدَّارِ

٢- كَأَنَّ عَيْنِي لَذِكْرَاهُ إِذَا خَطَرْتُ فَيَضُّ يَسِيلُ عَلَى الْخَدَيْنِ مَدْرَارُ

٣- تَبْكِي لِصَخْرٍ هِيَ الْعَبْرَى وَقَدْ ثَكَلَتْ وَدُونَهُ مِنْ جَدِيدِ التَّرْبِ أَسْتَاؤُ

٤- وَإِنَّ صَخْرًا لَوَالِينَا وَسِيدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتَو لِنَحَّازُ

٥- لَمْ تَرَهُ جَارَةً يَمْشِي بِسَاحَتِهَا لَرِيبَةٍ حِينَ يَخْلِي بَيْتَهُ الْجَارُ

٦- وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتِمُ الْهِدَاةَ بِهِ كَأَنَّهُ عِلْمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ

٧- جِلْدٌ جَمِيلٌ الْمَحْيَا كَامِلٌ وَرَعٌ وَلِلْحُرُوبِ غِدَاةُ الرَّوْعِ مَسْعَارُ

٨- حَمَالُ أَلْوِيَةِ هَبَّاطُ أَوْدِيَةٍ شَهَادُ أُنْدِيَةِ لِلْجَيْشِ جِرَارُ

٩- كَأَنِّي وَقَدْ أَدْتُوَا إِلَى شِفَارِهِمْ مِنْ الصَّبْرِ دَامِي الصَّفْحَتَيْنِ رُكُوبُ

(ديوان الخنساء، تحقيق و شرح حمد وطماس ، دار المعرفة بيروت، ١٩٨٨م)

٣- كعب بن زهير رضى الله عنه (٦ ابيات)

من: وقال كل خليل كنت أمله لا الهينك انى عنك مشغول

الى: لا تاخذنى باقوال الوشاة ولم اذنب وقد كثرت فى الاقاويل

❖ الشعر الاموى:

تعارف: الشعر الاموى --- معركة النقاىص -- اغراض الشعر الاموى و خصائصه

١- عمر بن ابي ربيعة (٢٣-٩٣هـ)

حب متبادل (٦ ابيات)

من: بنفسى من أشتكى حبه ومن إن شكا الحب لم يكذب

الى: ومن لا سلاح له يتقى وإن هو نوزل لم يغلب

(ديوان عمر بن ابي ربيعة، دار صادر، بيروت، ص ٦٢)

٢- الاخطل (١٩-٩٥هـ) (٨ ابيات)

قال يمدح عبد الملك بن مروان:

من: نفسى فدا امير المؤمنين اذا ابدى النواجذ عارم ذكر
الى: بنى امية نعماكم مجللة تمت فلامنة فيها ولا كدر

(١١٩ ، قديبي كتب خانه، كراتشي)

(تاريخ ادب عربي، احمد حسن الزيات، ص

٣- جرير (١٩-١١٠هـ) (١٥ بيتا)

وقال يمدح عبد الملك بن مروان:

من: انصحو ، بل فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح
الى: الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح

(٩٦-٩٨)

(ديوان جرير مكتبة الحياة ، بيروت ،

٤- الفرزدق (١٢-١١٠هـ) (٨ ابيات)

من: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه و الحل و الحرم
الى: من معشر حبههم دين و بغضهم كفر و قريهم متجى و معتصم

(١٢٢-١٢٢)

(تاريخ الادب العربي للزيات، ص

٥- كثير غزة (١٠٥هـ) (٧ ابيات)

١- تري الرجل النحيف فتزدرية وفي أثوابه أسد هصور

فيخلف ظنك الرجل الطيرير

٢- ويعجبك الطيرير إذا تراه

ولم تطل البراة ولا الصقور

٣- بغاث الطير أطولها رقابا

وأم الصقر مقالات نزور

٤- خشاش الطير أكثرها فراخا

وأصرمها اللواتي لا تزير

٥- ضعاف الأسد أكثرها زئيرا

فلم يستغن بالعظم البعير

٦- وقد عظم البعير بغير لب

ولكن زينهم كرم وخير

٧- فما عظم الرجال لهم بزير

(ديوان كثير غزة، دار صادر، بيروت)

❖ الشعر العباسي

تعارف: تطور الشعر في العصر العباسي-- اغراض الشعر العباسي و خصائصه

١- بشار بن برد (٩٥-١٦٧هـ) (٧ ابيات)

وقال في النسيب:

من: بكيت من الداء داء الهوى اليها وان ليس لي مسعد

الى: سوى شوق عيني الى وجهها واني اذا فارقت اكمد

(٧٦)

(ديوان شعر بشار بن برد ، دار الثقافة ، بيروت، ص

٢- ابو العتاهية (١٣٠-٢١١هـ) (١٠ ابيات)

من: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير الى تباب

الى: اراك وان طلبت بكل وجه كحل النوم او ظل السحاب

(١٩٦٤م، ص ٤٦-٤٧)

(ديوان ابن العتاهية، دار صادر، بيروت،

٣- ابو نواس (١٤٥-١٩٩هـ)

سكر حتى الصباح (٨ ابيات)

من: و خمار انخت اليه رحلى اناخة قاطن والليل داج

- الى: فما هجم الصباح على حتى رايت الارض دائرة الفجاج
(ديوان ابي نواس، دار صادر بيروت،
١٩٦٢، ص ١٣٧)
- ٤- البحترى (٢٠٦-٢٨٤هـ) (١٢ بيتا)
قال يمدح المتوكل :
- من: نصب الى طيب العراق و حسننها و يمنع منها قيظها و حرورها
الى: و عش ابدا للمكرمات و للعلأ فاننت ضياء المكرمات و نورها
(ديوان البحترى، دار المعارف، مصر، ج
٢، ص ٩٤٣-٩٤٤)
- ٥- المتنبى (٣٠٣-٣٥٤هـ) (١١ بيتا)
قال يرثى والده سيف الدولة:
من: نعد المشرفية والعوالى و تقتلن المنون بلا قتال
الى: على المدفون قبل الترب صونا وقبل اللحد في كرم الخلال
(ديوان ابي الطيب المتنبى، دار المعرفة بيروت، ج
٣، ص ١٢-٨)
- ٦- ابو العلاء المعرى (٣٦٣ - ٤٤٩هـ)
تعجب كلها الحياة (١٠ ابيات)
من: غير مجد في ملتي و اعتقادي نوح باق ولا ترنم شاد
الى: تعجب كلها الحياة ، فما اعجب الا من راغب في ازدياد
(المطالعة العربية ، عبد الله مشنوق ، المكتب التجارى ، بيروت ، ج
١، ص ٥٣)
- ٧- ديوان الحماسة:
١- باب الحماسه
وقال السموال بن عاديا، (١١ بيتا)
من: اذ المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
الى: تسيل على حد الظلمات نفوسنا وليست على غير الظلمات تسيل
(ديوان الحماسة، ج
١، ص ٢٧-٢٩)
- وقال سالم بن وابصة الاسدى، (٥ ابيات)
من: احب الفتى ينفى الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا
الى: غنى النفس ما يكفيك من سد خلة فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا
(ديوان حماسه، ج
٢، ص ١٦)
- ٨- البوصيرى (١٢ بيتا)
من: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب و من عجم
الى: فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بضم
الشعر الجديد: ❖
- تعارف: العصر الجديد، خصائص الشعر الجديد و اغراضه
١- حافظ ابراهيم من مصر " قصيدة الى الانجليز" (٩ ابيات)
- من: حولوا النيل واحجبوا الضوء ، عنا واطعموا النجم و احرمونا النسيما
الى: فاتقوا غضبة العواصف انى فقد رايت المصير امسى و خيما
(ديوان حافظ ابراهيم ، دار صادر، بيروت، ص
٣٥٢)
- ٢- خليل مردم بك من سوريا " بث وجد" (٦ ابيات)

- من: طلال ليلي و تولاني السهر وفوادي كاد شوقا ينفطر
الى: ان هذا بعض ما قاسية والذي اکتتم ادهى و امر
(ديوان خليل مردم بك، المجمع العلمى العربى، دمشق، ص
١٩٧)
- ٣- ابوالقاسم الشابى من تونس - " ارادة الحياة" (١١ ابيات)
- ١- إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدرُ
٢- ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسرُ
- ٣- ومن لم يعانقه شوقُ الحياة
٤- فويل لمن لم تشقه الحيا
تبخر في جوها واندرثر
- ٥- كذلك قالت لي الكائنات
٦- ومن لا يحب صعود الجبال
وحدثني روحها المستتر
- ٧- وقالت لي الأرض لما سألت
٨- أبارك في الناس أهل الطموح
يعش أبد الدهر بين الحفر
- ٩- وألعن من لا يماشى الزمان
١٠- هو الكون حي يحب الحياة
ويقتع بالعيش عيش الحجر
- ١١- فلا الأفق يحضن ميت الطيور
٤- جبران خليل جبران من الولايات المتحدة، " قصيدة دعاء- " (٨ ابيات)
- من: اسمعيني سكينه الليل لحنا من نشيد السكينه الأبدية
الى: مل قلبى بغضاءهم مل قلبى سبابهم والتحية
ازهار الاشعار ايف- أئى ملك، ص
٢٢٠- ٢٢٢)
- ٥- احمد شوقى من مصر (١٥ ابيات)
- من: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم و ثناء
الى: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل و هديه سيماء
(الشوقيات، دار الكتاب العربى، بيروت ، ص
٣٤- ٣٦)
- ٦- رفاعه الطهطاوى من مصر- " قصيدة وطنية في حب مصر " (١٢ بيتا)
- من: يا صاح حب الوطن حلية كل فطن
الى: وفخرها ينادى ما المجد الا ديدنى
ديوان رفاعه الطهطاوى، دار المعارف ، مصر
١٩٩٥م، ص ٨٣)

٧- الامير عبد الله الفيصل من المملكة السعودية (١٥ ابياتا)

قصيدة صناجة العرب من ديوان حديث القلب

٨- خليل مطران من لبنان--" قصيدة يقظه العرب"(٦ ابيات)

ازهار الاشعار، ايف- آتى ملك، ص ٨٤، آزاد بك دپو، لاهور

٩- ايليا ابو ماضى من الولايات المتحدة

قصيدة: الحجر الصغير (١٣ بيتا)

من: سمع الليل ذو النجوم انينا وهو يغشى المدينة البيضاء

الى: فتح الفجر جفنه فاذا الطو فان يغشى المدينة البيضاء

(ديوان ايليا ابو ماضى، ص ٥٧)

١٠- معروف الرصافي من العراق قصيدة " ايقاظ الرقود" (٨ ابيات)

من: الى كم انت تهتف بالنشيد وقد اعياك ايقاظ الرقود

الى: تهز من الجهالة فى مهود

(ازهار الاشعار، ص ٥٢)

١١- على ماشم رشيد من فلسطين (اغانى العودة، ٤ مقطعات)

انا يا اخى الانسان مثلك كان لى وطن حبيب

قد كنت فيه اعيش فى رغد، وفى عيش رحيب

وبه الحدائق و الجبال الشم والمرج الخصيب

و به الامانى العذاب و شمس عز لا تغيب

كنا كذلك حين عاث بارضنا المستعمرون

و مضى اليهود يقتلون و يذبون و يفتكون

وتاحجت فى ارضنا نوب مشروبها السنون

فيها بنكيتا صحائف من سواد للعيون

اصبحت فى كوخ حقير بعد عالية القصور

اصبحت منبوزا تقاذ فى المنايا و الذمور

والسل ينخر فى العظام و فى العروق وفى الصدور

والجوع و التشريد والحرمان اكواب تدور

صرنا بعيد العز و الامجاد ندعى لاجئين
والبعض سعى شعينا المظلوم شعب النازحين
فمقى نسير الى الروابي الخضر جمعا عاندين
لنعود نصنع للحياة سنى على مر السنين

(٨٧)

(ديوان اغاني العودة، ص

مصادر ومراجع

1. ابن قتيبة، آداب الكاتب: تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، مصر، مكتبة السعادة ١٩٩٤م
2. ا-ج اربرى، ازهار الاشعار: ترجمة و تدوين: الاستاذ فضل الهى ملك، لاهور، آزاد بك ڈپو
3. ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تحقيق: على محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣م
4. الزركلى، خير الدين: الاعلام، مطبعة كوستانسوماس ١٩٥٦م
5. ابن كثير، البداية النهاية بيروت، دار الكتب العلمية ١٩٦٥م
6. الجاحظ، البيان والتبيين (تحقيق و تقديم: فوزى عطوى، دار صعب، بيروت
7. ابوالبقاء العكبرى: التبيان في شرح ديوان المتنبي: تحقيق الدكتور كمال طالب، دار الكتب العلمية، بيروت
8. الزيات، احمد حسن: تاريخ الادب العربى، كراتشى: قديهي كتب خانه
9. الرفاعى، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٠م
10. ابن جرير طبرى، تاريخ الامم والملوك، بيروت، مؤسسة الاعلى للمطبوعات
11. الألوسى، محمود، تفسير روح المعانى، المكتبة الامدادية، ملتان
12. الامير عبد الله الفيصل: حديث القلب، الرياض
13. ابو نعيم الاصفهاني: دلائل النبوة، حيدر آباد دكن، دائرة المعارف النظامية
14. المتنبي، ديوان ابى الطيب المتنبي، بيروت دار المعرفة
15. ابوالعتاهية، ديوان ابى العتاهية، دار صادر، بيروت
16. ابو نواس، ديوان ابى نواس، دار صادر بيروت
17. البحتري، ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر
18. بشار، ديوان بشار بن برد، تحقيق: السيد محمد بدر الدين العلوى، دار المعرفة، بيروت
19. جرير، ديوان جرير، دار مكتبة الحياة
20. حافظ ابراهيم، ديوان حافظ ابراهيم، دار صادر، بيروت
21. حسان بن ثابت، ديوان حسان، المكتبة، لاهور
22. ابو تمام، ديوان الحماسة، دار العلم، بيروت
23. مردم بك، ديوان خليل مردم بك، تحقيق: جميل صليبا، الجمع العلمى العربى، دمشق
24. الخنساء، ديوان الخنساء: دار عمار، اردن
25. الطهطاوى، ديوان رقاعة الطهطاوى، جمع و دراسة: الدكتور طه داؤدى، دار المعارف، مصر
26. ابن ابى ربيعة، ديوان عمر بن ابى ربيعة، دار صادر، بيروت

27. السهيلي، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن ابي الحسن الخثعمي، الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: محمدي بن منصور بن سيد الشوري، دار الكتب العلمية، بيروت
28. ابن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت
29. ابوالقاسم، محمد كرد: الشابي حاته و شعره ، دار مكتبة الحياة، بيروت
30. تاج الدين شلق، شرح ديوان جرير، بيروت، دار الكتاب العربي
31. عبدالرحمن البرقوقي: شرح ديوان حسان بن ثابت ، بيروت ، دار الاندلس
32. الخطيب التبريزي، شرح ديوان الحماسة لابي تمام، بيروت ، دار الكتب العلمية
33. عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي
34. احمد شوقي، : المشوقيات، دار الكتاب العربي، بيروت
35. ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صعب ، بيروت
36. ابن عبد ربه، العقد الفرير، دار الكتاب ، بيروت ١٩٨٣ م
37. الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، مطبعة دار المامون، مصر
38. ابو على الفاي، كتاب الامالي، بيروت
39. ابوالعباس البرد، كتاب الكامل، تحقيق: محمد احمد الأمالي، مؤسسة الرسالة ، بيروت
40. كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، المكتبة العربية، دمشق
41. الزوزني، شرح المعلقات السبع، المكتبة السلفية، لاهور
42. القسطلاني، احمد بن محمد القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، تحقيق: صالح احمد الشامي، الكتب الاسلامي، بيروت
43. الخفاجي ، شهاب الدين، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض، المطبعة الأزهرية، مصر، ١٣٢٥ هـ

M.A Arabic (Part-II) Paper III

١٠٠ : علامة: **تاريخ الادب العربي** ٣- المادة الثالثة
(History of Arabic Literature)

❖ اللغة و ادبها، تعريفها و خصائصها

١- الادب العربي في العصر الجاهلي

(من بعد قرن الخامس الى العام ٦٢٢ الميلادي)

١- دراسة موجزة عن الحياة الادبية في الجاهلية

٢- الشعر الجاهلي، خصائصه اللفظية و المعنوية

٣- اعلام الشعر الجاهلي:

٢- زهير بن ابي سلى

١- امرؤ القيس

٤- النابغة الذبياني

٣- عمرو بن كلثوم

٤- المعلقات السبع و مكانتها في الشعر العربي الجاهلي

٥- النثر الجاهلي، مميزاته و اسلوبه

٦- اعلام النثر الجاهلي:

٢- عمرو بن معديكرب الزبيدي

١- قس بن ساعدة الايادي

٢- الادب العربي في عصر صدرالاسلام

١- ٤٠هـ/٦٣٢-٦٦١م)

١- دراسة موجزة عن اثر الاسلام في الادب العربي

٢- الشعر و شعراء صدرالاسلام:

١ - كعب بن زمير

٢ - الخنساء

٣ - حسان بن ثابت

٤ - عمر بن ابي ربيعة

٣ - النثر في عصر صدر الاسلام و خصائصه

٣ - الادب العربي في العصر الاموى

(٤١-١٣٣ هـ / ٦٦١-٧٥٠ م)

١ - نظرة عامة على الحياة الادبية في العصر الاموى

٢ - الشعر والشعراء في العصر الاموى:

٢ - الفرزدق

١ - الأخطل

٣ - جرير

٣ - النثر و الخطابة:

٢ - سحيان وائل

١ - زياد بن ابيه

٣ - الحجاج بن يوسف

٤ - الادب العربي في العصر العباسى

(١٣٣---٦٥٦ هـ / ٧٥٠--١٢٥٨ م)

١ - الشعر العباسى و خصائصه

٢ - اعلام شعر العباسى:

٣ - ابو تمام

٢ - ابو العتاهية

١ - بشار بن برد

٦ - ابو العلاء المعرى

٥ - المتنبي

٤ - البيهقي

٣ - النثر العباسى و اعلامه و اساليبهم في الكتابة:

٣ - المبرد

٢ - الجاحظ

١ - ابن المقفع

٦ - الجريري

٥ - القاضى الفاضل

٤ - ابن قتيبة

٥ - الادب العربي في العصر التركي

١ - دراسة موجزة عن معالمه و اساليب تخلفه

٦ - الادب العربي في العصر الحديث

(١٧٩٨ -- ٢٠٠٠ م وبعده)

١ - دراسة موجزة عن الحياة الادبية في العصر الحديث

٢ - القصة و انواعها

(الرواية، القصة القصيرة، المسرحية)

٣ - النثر العربي في العصر الحديث و اعلامه:

١- توفيق الحكيم ٢- المنفلوطي ٣- عباس محمود العقاد

٤- طه حسين ٥- نجيب محفوظ ٦- سيد قطب

٤ - الشعر العربي في العصر الحديث و اعلامه:

١- محمود سامي البارودي ٢- احمد شوقي ، ٣- حافظ ابراهيم

٤- ابو القاسم الشابي ٥- عبد الله الفيصل ٦- نزار قباني

٥ - شعر المهجر و اعلامه:

١- جبران خليل جبران ٢- ميخائيل نعيمة ٣- ايليا ابو ماضي

الكتب المقترحة:

١. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بولاق ١٢٧٤ هـ
٢. ابن خلكان، وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٨ م
٣. الاصفهاني ابو الفرج، كتاب الأغاني، دار احياء التراث ، بيروت ١٩٩٧ م
٤. الزيات، احمد حسن، تاريخ الأدب العربي، دار العرفة ، بيروت
٥. جرجي، زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت
٦. حلبي، حاجي خليفة، كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون، استانبول ١٩٤١ م
٧. شوقي ضيف (الدكتور) ، الادب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف
٨. عمر فروخ (الدكتور) ، تاريخ الادب العربي، دار العلم للملايين، بيروت
٩. عبد القدير (الحافظ) تاريخ الأدب العربي، آزاد بك ڈپو لاہور
١٠. لجنة من الادباء، المفيد في الادب العربي، مكتبة التجارة، بيروت

.....

M.A Arabic (Part-II) Paper IV(e)

١٠٠ تاريخ الاسلام علامة : ٤- المادة الرابعة
(Islamic History)

١- السيرة: (٥٠ علامة)

١ - تعريف موجز بالحياة و السيرة النبوية من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مبعثه و هجرته و غزواته و وفاته، و بالاشارة الخاصة الى:

ميثاق المدينة ، غزوة بدر ، غزوة احد ، غزوة احزاب

صلح الحديبية ، فتح مكة ، حجة الوداع

٢ - تعريف موجز باهل بيت محمد النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه امهات المؤمنين و ابنتائه و بنائه و اصهاره و اسياطه و بنات بنائه رضى الله عنهم اجمعين

١ - امهات المؤمنين:

خديجة و سودة و عائشة و حفصة و ام حبيبة و ام سلمة و زينب بنت جحش و زينب بنت خزيمة و جويرية و ميمونة و فية و ريحانة و مارية القبطية رضى الله عنهن-

٢ - اولاد النبي صلى الله عليه وسلم:

القاسم و عبد الله و ابراهيم و زينب و رقية و ام كلثوم و فاطمة رضى الله عنهم

٣ - اصهار النبي صلى الله عليه وسلم :

ابو العاص بن ربيع الاموى القرشى، و عثمان بن عفان الاموى، على بن ابى طالب رضى الله عنهم

٤ - اسباط النبي صلى الله عليه وسلم:

على بن ابى العاص و عبد الله بن عثمان و الحسن و الحسين بن على رضى الله عنهم

٣- تعريف موجز بجماعة الصحابة الكرام المشتملة على أكثر من مائة الف صحابي و صحابية رضی الله عنهم، بالاشارة الى مقامهم الشرعى و مناقبهم في ضوء القرآن و السنة و بالدراسة الخاصة الموجزة لسيرة و خدمات الشخصيات الآتية:

١- طلحة بن عبيد الله	٢- الزبير بن العوام	٣- ابو عبيدة بن الجراح
٤- عبد الرحمن بن العوف	٥- سعد بن ابى وقاص	٦- سعيد بن زيد
٧- سيد الشهداء، حمزة	٨- عباس بن ابى طالب	٩- ابو سفيان
١٠- ابو ايوب الانصارى	١١- سعد بن معاذ	١٢- سعد بن عبادة
١٣- بلال الحبشى	١٤- صهيب الرومى	١٥- سلمان الفارسى
١٦- عمار بن ياسر	١٧- خباب بن الأرت	١٨- مقداد بن الأسود
١٩- صفية بنت عبدالمطلب	٢٠- اسماء بنت ابى بكر	٢١- اسماء بنت عميس
٢٢- مصعب بن عمير	٢٣- زيد بن حارثة	٢٤- جعفر بن ابى طالب
٢٥- سيف الله خالد بن وليد	٢٦- عقيل بن ابى طالب	٢٧- يزيد بن ابى سفيان
٢٨- عمرو بن العاص	٢٩- مغيرة بن شعبة	٣٠- ابو موسى الاشعري
٣١- زيد بن ثابت	٣٢- ابى بن كعب	٣٣- معاذ بن جبل
٣٤- سالم مولى ابى حذيفة	٣٥- ابو هريرة	٣٦- عبد الله بن عمر
٣٧- انس بن مالك	٣٨- عبد الله بن عباس	٣٩- جابر بن عبد الله الانصارى
٤٠- ابو سعيد الخدرى	٤١- عبد الله بن مسعود	٤٢- عبد الله بن عمرو بن العاص
٤٣- ابو ذرغفارى	٤٤- عبد الله بن سلام	٤٥- اسامة بن زيد رضى الله عنهم

٢- الخلافة الاسلامية (٥٠ علامة)

من امير المؤمنين ابى بكر الصديق رضى الله عنه الى الخليفة العثمانى السلطان عبد المجيد الثانى (١١هـ - ١٣٤٢هـ / ١٩٢٤م - ١٩٢٤م)

١- الخلافة الاسلامية في ضوء القرآن والسنة

١- مفهوم الخلافة و مباحثها الاساسية في ضوء القرآن و الحديث و السيرة و التاريخ، و بالاشارة الخاصة الى الحديث (خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء) و الحديث (الخلافة بعدى ثلاثون سنة) و الحديث (لا يزال الاسلام عزيزا الى ائى خليفة كلهم من قريش) الخ... و مصطلحات " الخلافة الخاصة و العامة " و " المملوكية " .

٢- الإمامة و الخلافة عند الجمهور (اهل السنة و الجماعة) و عند الفرق (الشيعة و الخوارج و المرجئة و المعتزلة)

٣- شرعية الخلافة الاسلامية الفعلية من القرن الأول الى القرن الرابع عشر الهجرى - ((١١هـ - ١٣٤٢هـ / ١٩٢٤م - ١٩٢٤م))

٢- خلافة الصحابة رضى الله عنهم (١١هـ - ٦٠هـ)

تعريف موجز بسيرة و خدمات امير المؤمنين ابى بكر و عمر و عثمان و على و الحسن و معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنهم و مميزات خلافتهم (الادارة و الفتوحات و المشاجرات...) .

٣- الخلافة الأموية (٦٠-١٣٢هـ)

- ١- خلافة يزيد بن معاوية الاموى القرشى (٦٠-٦٤هـ) و سيرته و وقعة كربلاء، الحرة و حريق الكعبة في خلافته-
- ٢- خلافة مروان بن الحكم الاموى القرشى بالشام (٦٤-٦٥هـ) و سيرته-
- ٣- خلافة عبد الله بن الزبير الاسدى القرشى بالحجاز و العراق (٦٤-٧٣هـ)
- ٤- خلافة مروان في القرن الاول (٦٥-١٠١هـ): من الخليفة عبد الملك بن مروان الى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان الاموى القرشى
- ٥- الخلافة المروانية الاموية في القرن الثانى الهجرى (١٠١-١٣٢هـ) من خلافة يزيد و هشام الى مروان الثانى-

٤- الخلافة العباسية (١٣٢-٦٥٦هـ)

دراسة موجزة للتطورات السياسية والاجتماعية و تطور العلوم و الفنون الشرعية والعامية ف العصر العباسى بدأ من خلافة ابي العباس السفاح و ابي جعفر المنصور الى سقوط بغداد في عام ٦٥٦هـ-

٥- الخلافة الاسلامية بعد سقوط بغداد (٦٥٦-١٣٤٢هـ)

دراسة موجزة لواقع العالم الاسلامى و احواله و اوضاعه العلمية و الثقافية والسياسية و الاجتماعية من منتصف القرن السابع الهجرى الى سقوط الخلافة العثمانية التركية- (١٣٤٢هـ)

٦- العالم الاسلامى في العصر الحديث (القرن الرابع والخامس عشر الهجرى)

١- دراسة موجزة لأهمية و انتشار اللغة الغربية و ايجديتها في العالم الاسلامى الحديث وخارجه-

٢- تعريف موجز بالمناطق الجغرافية والثقافية من العالم الاسلامى الحديث بالإشارة الخاصة الى:

الف: منطقة الدول العربية والافريقية المسلمة

ب: منطقة دول آسيا الوسطى والمجاورة لها

ج: منطقة الدول المسلمة في جنوب شرق آسيا

د: منطقة الدول الأوروبية المسلمة

ر: مناطق الأقليات المسلمة في القارات الست-

٣- دراسة موجزة لتطور الدعوة الاسلامية في العصر الحديث بالإشارة الخاصة الى قادة الفكر الاسلامى والمؤلفات والحركات الاسلامية الهامة-

المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم
2. المؤطا للامام محمد الامام انس بن مالك
3. مسند احمد الامام احمد بن حنبل
4. صحيح البخارى محمد بن اسماعيل البخارى
5. صحيح مسلم مسلم بن حجاج القشيري
6. سنن ابى داؤد ابو داؤد سليمان بن الاشعث
7. جامع ترمذى ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذى
8. سنن ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى
9. سنن النسائى احمد بن شعيب النسائى
10. مشكاة المصابيح على الدين محمد بن عبدالله الخطيب التبريزى
11. السيرة النبوية ابن بشام
12. الطبقات الكبرى ابن سعد
13. الاستيعاب في معرفة الاصحاب ابن عبد البر الاندلسى
14. اسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الاثير جزرى
15. الاصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلانى
16. تاريخ عبد الملك بن حبيب عبد الملك بن حبيب الاندلسى
17. تاريخ الامم والملوك محمد بن جرير الطبرى
18. الكامل في التاريخ ابن اثير الجزرى
19. منهاج السنة ابن تيمية
20. مقدمة و تاريخ العبر ابن خلدون
21. كتاب نسب قريش مصعب الزبيرى
22. كتاب المعارف ابن قتيبة
23. جمهرة انساب العرب ابن حزم الظاهرى
24. كتاب الملل والنحل الشهرستانى
25. العقد الفريد ابن عبدربه
26. انساب الاشراف البلاذرى
27. الثقافة السلامية في الهند عبد الحى اللكنوى
28. الثقافة الاسلامية راغب الطباغ
29. تاريخ الاسلام حسن ابراهيم حسن
30. حياة الصحابة محمد يوسف الكاندهلوى
31. حجة الله البالغة الشاه ولى الله الدهلوى
32. رجال الفكر و لدعوة ابو الحسن على الندوى
33. الخلافة خالد محمود
34. العبقريات و التراجم عباس محمود العقاد
- المراجع الفارسية و الاردوية
35. قرة العينين في تفصيل الشيخين الشاة ولى الله الدهلوى
36. تحقيق مزيسد محمود احمد عباسى
37. خلافة و ملوكية ابو الاعلى مودودى
38. يزيد كا مقدمه سعيد الرحمن علوى

39.	شهييد انسانيت سيد على نقى نقوى
40.	واقعة كربلا عتيق الرحمن سنيهلى
41.	مقام صحابة مفتى شفيع عثمانى
42.	Encyclopaedia of Islam
43.	Encyclopaedia Britannica
44.	History of Arabs
45.	Spirit of Islam
46.	Muslim World

M.A Arabic (Part-II) Paper V(a)

١٠٠ . ٥- المادة الخامسة الادب العربى فى شبه القارة علامة :

(Arabic Literature in Sub-Continent)

١- دراسة تاريخ الأدب لشبه القارة:

١- دخول المسلمين الى شبه القارة

٢- التعريف بامهات الكتب المؤلفة فى شبه القارة فى المحالات التالية:

الادب ، النحو ، التاريخ ، التفسير ، الفقه

التصوف ، علم الكلام، الفلسفة ، المنطق ، الرياضيات

الطب

٢- نماذج الأدب العربى فى شبه القارة:

١- نماذج النثر العربى

الف: القاضى ثناء الله البانى بى:

تفسير سورة قريش

١٠ ، ص ٣٤٦ ، مكتبة المعارف العلمية ، شارع شيش محل ، لاهور ١٩٧٠هـ)

ج)

ب: الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى:

رقم الحديث: ٢١٦-٢١٩ (ج) ١ ، ص ٢٧٢-٢٧٤ ، (كتاب العلم و فضله ، لمعات التنقيح فى شرح

مشكوة المصابيح ، مكتبة المعارف العلمية ، شارع شيش محل ، لاهور)

٣- الشاه على الله المحدث الدهلوى:

الخلافة (ص) ١٤٩-١٥١، حجة الله البالغة، المكتبة السلفية، شارع شيش محل لاپور)

٤- السيد عبد الحى الحسى:

من: فمن أدباء الهند (ص) ٤٤-٥٣، الثقافة الاسلامية في الهند، المجمع العلمى العربى دمشق)

٥- الاستا ذ الفاضل عبد العزيز الميمى:

من: حفظه وواعيته

الى: سرد عليهم كل ما اورده عليه

(ص) ٤١-٤٥، ابو العلاء و ما اليه، المطبعة السلفية، ١٩٢٥م)

٦- ابو الحسن على الندوى:

الى الامة العربية

(ص) ٧١-٧٥، روائع اقبال، مجلس نشریات اسلام، كراتشى، باكستان)

ب: نماذج الشعر العربى

١- ابو عطاء السندى: ٥ ابیات

(ص ١٢، نتف من شعر ابى عطاء السندى بتحقيق الدكتور نبى بخش بلوش، حيدر آباد السنده، باكستان ١٩٦١م)

٢- الشيخ احمد بن محمد التهانيسرى:

١٥ بيتا من قصيدة دالية في مدح النبى صلى الله عليه وسلم

(ج) ٣ ص ١٠-١١، نزمة الخواطر، مجلس دائرة المعاصر العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند)

٣- القاضى عبد المقتدر:

١٧ بيتا

(ج) ٢، ص ٧١-٧٢، نزمة الخواطر)

٤- السيد غلام على آزاد البلغرامى:

١٥ بيتا

(ص) ٥٠-٥١، الديوان الثانى، لوح محفوظ، حيدر آباد الدكن، الهند)

٥- الشاه ولى الله المحدث الدهلوى:

١٥ بيتا

(ص ۲۰-۲۲، اطیب النغم فی مدح سید العرب و العجم، مطبعة المجتبیائی، ۱۳۰۸)

۶۔ الشیخ فیض الحسن السہارنوبوی:

۲۲ بیتا

(ص ۱۳-۱۴، دیوان الفیض، المجمع العربی الباکستانی، لاہور)

الکتب المقترحة

الف: للتاریخ الاسلامی السیاسی

1. محمد اکرم، شیخ، آب کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۲۰۰۲ م
 2. سالک، عبد الحمید، مسلم ثقافت ہندوستان میں، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۲۰۰۲ م
 3. ندوی، سید سلیمان، عرب و ہند کے تعلقات، مشعل بکس، لاہور، ۲۰۰۴ م
 4. ہاشمی، فرید آبادی، تاریخ مسلمانان پاکستان و ہند، کراچی، ۱۹۵۳ م
 5. قریشی، اشتیاق، برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، کراچی
 6. محمد میاں، مولانا، علمائے ہند کا شاندار ماضی
 7. ریاض حسن، سید، پاکستان ناگزیر تھا، جامعہ کراچی
 8. الندوی، ابو الحسن علی، المسلمون فی الہند، دار الفتح، دمشق
- ب: تاریخ الادب العربی فی شبه القارۃ:
9. البانی بنی، ثناء اللہ، تفسیر المظہری، شارع سرکی، کویتہ، پاکستان
 10. الدہلوی، عبد الحق، لمعات التنقیح فی شرح مشکاة المصابیح، مکتبہ المعارف العلمیہ، شیش محل لاہور
 11. الدہلوی، ولی اللہ، حجة اللہ البالغہ، المکتبہ الاسلامیہ، شارع شیش محل
 12. الدہلوی، ولی اللہ، اطیب النغم فی مدح سید العرب و العجم، مطبعة المجتبیائی،
 13. المیمی، عبد العزیز، ابو العلاء و مالمیہ، المطبعة السلفیة
 14. الندوی، ابو الحسن علی، روائع اقبال، مجلس نشریات اسلام، کراچی
 15. السندی ابو عطاء، نتف من شعر ابی عطا السندی بتحقیق الدكتور نبی بخش بلوش حیدر آباد
 16. البلگرامی، غلام نبی، دیوان الثانی، لوح محفوظ، حیدر آباد دکن
 17. السہانوبوری، فیض الحسن، دیوان الفیض، المجمع العربی الباکستانی، لاہور
 18. الحسنی، عبد الحی، نزمۃ الخواطر و بھجۃ المسامع و النواظر، حیدر آباد دکن
 19. تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، جامعہ بنجاب، لاہور
 20. احسان حق، پاکستان، ماضیہا و حاضرہا، بیروت لبنان
 21. احمد زبید، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، (اردو ترجمہ: شاہد حسن رزاقی لاہور)
 22. خالق داد ملک، اعضاء علی تعلیم اللغۃ العربیة فی پاکستان، کلیۃ الدراسات الاسلامیة و الشرقیة، جامعہ بنجاب، لاہور ۲۰۰۰ م۔
 23. Yousaf Muhammad , Dr, Studies in Islamic History and Culture , Institute of Islamic Culture , Lahore 1970.

.....

M.A Arabic (Part-II) Paper V(b)

١٠٠

كتابة البحث العلمى علامة :

٥- المادة الخامسة

(Thesis)